

# شرح فِي حِلْمِ مُحَمَّدٍ مُسْلِمٍ

لِسُوبِ يَمْ قَطْبِ عَالِمِ شِيخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ شَاهِ الْهَادِي وَالْمَدِّ صَاحِبِ

كَتَانُویِّ مَهَارَا جِرْمَکیِّ قدِسَ اللَّهُ سَرَّهُ

مع

تَكْمِهَ وَضَمِيمَهُ بَتْ وَمَتَعَلَّهَاتْ

از خضرت مولانا جبیل احمد صاحب مکانوی  
مفتی یامعده شرفیہ - مسلم شاعر - لاہور

# تمہید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا

تقریباً ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۳ء میں ایک رسالہ "فیصلہ ہفت مسلّم" حضرت قطب عالم جنید وقت شبلی دوران حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھا نومی ہماجر کی نور اللہ ضریحہ کی طرف نسب پر مطبع نظامی کاپور سے طبع ہو کر شائع ہوا تھا۔ اور کئی بار جگہ جگہ طبع ہوا۔ اب نسلیہ مطابق ۱۹۷۰ء میں حکم اوقاف لاہور نے خوبصورت طریقہ سے اس کو شائع کیا ہے جس کو انہوں نے کراچی کے کسی مطبوعہ نسخہ سے نقل کیا ہے مگر اس نسخہ میں کئی تغیر ہو گئے ہیں۔

(۱) حضرت قطب عالم قدس سرہ کے الفاظ بعینہ نہیں رکھے گئے۔ گویا اس کو آسان اور شستہ عبارت یہ ڈھالا گیا ہے لیکن ایک توحضرت کے بارگات الفاظ سے محروم کر دیا گیا کہ بزرگوں کے لفظوں کی جوتائیر ہوتی ہے اس سے سب کو رہ گئے۔ دوسرا سے اسیں کچھ الفاظ چھوڑ بھی دیئے گئے تیسرا سے بعض جگہ غریب بھی بدل بدل گیا ہے۔

(۲) رسالہ کے آخرین "وصیت" عنوان سے ایک مختصر مضامون تھا جس میں حضرت قدس سرہ نے اپنے ایک خلیفہ اعظم کی طرف رجوع کرنے کا سب کو حکم دیا تھا وہ بالکل غائب۔ (۳) اس وصیت کے بعد حضرت ہولانا رومی کی فتنوی کے اشعار تھے جنہیں فردی احتلاقات کاراز اور اصلاح نہیں وہ بھی حذف کر دیئے گئے۔

(۴) زیست الاول ۱۳۱۴ھ مطابق ستمبر ۱۸۹۶ء میں حضرت حکیم الامر مجدد الملت مولانا دہلوی تھی حسیب تھا نومی "خلیفہ حضرت قطب عالم قدس سرہ" کا تحریر فرمایا ہوا ایک ضمیمہ شائع ہو چکا تھا اور وہ اس کے ساتھ طبع کیا جاتا تھا، کیونکہ جیسے کہ خود اس میں بیان ہے اس

مصنف رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے حضرت حکیم الامت ہی تھے حضرت قطب عالم کے ایسا سے تحریر کر کے سن کر منتظر کرایا تھا اس کو ان صاحبوں نے شائع نہیں کیا حالانکہ

### تصنیف را مصنف نیکو کند بیان

کے موافق اسی کی توضیحات قابلِ قدر تھیں۔ اسی وجہ سے یہ ساتھ شائع ہوا کرتا تھا۔

یہ رسالہ مکرہ زادہ اللہ شرفا کے ماحول میں لکھا گیا تھا۔ ان سات مسئلوں میں بعض بعض جگہ لوگوں نے دونوں طرف غلوکر کریا ہے اسی بے جھگڑے ہوتے لگے۔

مقصد یہ تھا کہ دونوں طرف کے لوگ غلو سے رُک جائیں اور جیسے مکرہ میں غلو سے پاک رکھا جاتا ہے دونوں طرف کے غلو سے ہر جگہ پاک رکھا جائے۔ اور سب

امن و سکون کی زندگی سے یادِ الہی میں معروف ہوں۔ یہ سب چیزیں اور ان کی خصوصیات اور قیدیں فرض ہیں نہ واجب نہ سنت ایسا سمجھنے سے باز رہیں ان کو عقیدہ یا عمل میں

و احباب قرار دینے سنبھلیں اور درسرے لوگ بھی مغلوب الحال یا خالی الہیں لوگوں پر اعتراض سے رُک جائیں مضمون مختصر مگر غلو کی باتوں پر اشارات سے بھر پور ہے

کہیں کہیں صاف بات بھی ہے۔

چونکہ مکرہ میں لوگ ایسے غلو نہ کرتے تھے، حضرت قطب عالم قدس اللہ سرہ

نے اس کی تصدیق فرمادی، پھر بھی اس ماحول کے موافق قیدیں اور اشارات کافی موجود ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان مکرہ کی طرح غلو سے خالی ہٹلیں ہر مسئلہ میں غلط عقیدوں

کو دخل دے رکھا ہے۔ بے اہل یا غیر واجب بالذوں کو عقیدہ میں ورنہ عمل میں واجب قرار دے دے کر دین الہی اور تلقین نبوی میں ترمیم کر رکھی ہے۔ اور بعض لوگوں نے

تو کفر و شرک تک ذبت پہنچا کرچی ہے۔ ضروری معلوم ہوا کہ کہیں خ دغرض لوگ اس ارشاد

والا سے ناجائز فائدے نہ حاصل کرنے لیکن اور مضمون کے اشارات سے غافل مسلمانوں کو بے راه نہ کر دیں اس لئے اصل عبارت رسالہ مطبوعد بلند شیر ۱۸۹۶ء اور کلیاتِ امدادیہ

کے اندر کے رسالہ سے لیکر بعد نہ قائم رکھ کر اس پر حاشیہ میں مشکل لفظ جملہ فقرے اور عربی فارسی جملوں اور اشعار کو حل کیا جائے اور ان اشارات سے جو پورے رسالہ میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ پر مشکوں کی توضیح و تفسیر کر دی جائے تاکہ کم علم اور سادہ لوح مسلمان کسی عیار کے چکر میں نہ آسکیں، اور پھر خود حضرت قطب عالم قدس سرہ پر غلط عقیدوں اور غلط مسائل کی تہذیت نہ لگا سکیں اور متروک چیزیں وصیت مثنوی کے اشعار اور خود حضرت اقدس کے قلم مبارک سے بعض مسائل کے تعلق صاف ارشاد ضمیم حضرت خلیفۃ الرسل مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی و ضمیم حضرت حکیم الامم مجید والملک مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی و تمہ وصیت حضرت قطب عالم ذخرا ب متعلق فیصلہ مسئلہ و متعلقہ سوال و جواب کو بھی پیش کر دیا جائے۔

حضرت قطب عالم قدس سرہ کا نہایت زبردست احسان کل ہندوستان پاکستان کے بلکہ تمام اسلام کے مسلنوں پر ہے اور اسی وجہ سے ہر پڑھا لکھا ہو شمند حضرت اقدس سے والہانہ تحریت و عقیدت رکھتا ہے۔ دینی احسان بھی ہے اور دنیوی احسان بھی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط کرنے کے بعد مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی جو تدبیریں حکومت سے اور مال کے خرچ اور لاپچ سے کی تھیں، ایک بے سر و سامان قوم کے پاس اس سے بجاوہ کی کوئی صورت بظاہر نہ تھی۔ یہ حضرت ہی کی بالغ تنظری تھی کہ مسلمانوں کے اسلام و دینداری کی خناکیت کے قلعے دینی و دینی تعلیم و تربیت کے مدرسے اور خانقاہیں بنانے کی تجویز کی جس کی تجھیں آپ کے خلفاً اور مریدوں نے کر دھائی۔ دارالعلوم دیوبند جو اس وقت دینا بھر میں کیتا۔ دینی درسگاہ ہے۔ اور تمام گوشه ہائے مکہ میں دینی مدرسے اور ان کے تحت اسلامی علوم کے خزانے لیئی بڑے بڑے کتب خانے اور تبلیغ اسلام کے لئے تایفات عربی فارسی اور دوہریت کریت سے نشر و اشاعت کے مرکز قائم کر دئے۔ اردو میں بھی اس تدریس دین ہو گیا کہ فارسی میں بھی نہ تھا۔ بیان عالم نے

گو ابھی دی کہ اس قدر دینداری و علم کسی اسلامی مملکت میں بھی نہیں، اور پھر جگہ جگہ خانقاہیں باطنی ممالک کی بھی قائم ہو گئیں۔

جنگ آزادی کا شگب غیاد شہادت میں آپ نے ہی رکھا۔ اس کا سہرا آپ کے اور آپ کے متعلقین کے ہی سر ہے۔ آپ کے رفاقتی شہادت اور آپ کے نزک وطن اور بحیرت کر جانے کا یہی سبب، ہوا جنگ آزادی کا علم سب سے پہلے آپ اور آپ کے متعلقین نے بلند کیا شہادت میں جو نیج بیباگیا تھا۔ ستمبر ۱۹۴۷ء میں اس کا پہل پاکستان حاصل ہو گیا اور دنیا بھر میں سب سے بڑی اسلامی حکومت مل گئی، قربانیاں آپ کے ساتھیوں نے ہی دین سینکڑوں شہید سینکڑوں بے وطن سینکڑوں خانماں برباد ہو گئے۔ سینکڑوں جیل اور ظلم ستم کا شکار ہوئے۔ مگر اللہ کے کرم سے امید نہ توڑی، کو بعض غداروں نے پاکستان کو آدھا کرویا۔

عام لوگوں کے لئے اس کی صاف اور بھلی دلیل آج بھی موجود ہے۔ حکومت برطانیہ کے کاغذات شاہدین کہ پورے ملک میں سے اس وقت اسی تھانہ بھون کے باشندوں کے تمام گھر اور تمام زینیں ضبط کی گئیں اور نیلام کر دی گئیں۔ تمام کاغذات میں آج بھی محل پانیاں اور محل مفہیم تمام اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ گو آج پاکستان کے بہنے والے ان حقیقتوں سے ناواقف ہوں۔

رسالہ "فیصلہ ہفت مسلسل" سے بعض لوگ غلط فہمیاں چھیلا کر ایسے محسن عظیم کی سوانح کو داندار بنانے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی الفاف کی درخواست ہے۔ اس پر توصیع و تشریح اور متعلقات کو ساتھ لٹکنے کی ضرورت ہوئی کہ ممکن ہے کوئی توشیف آدمی ایسا ہو گا، جو ایسے محسن کے احسان کو محسوس کرے گا، اور حق و ناجحت میں غیر ممکن ہے کہ

احقر جمیل احمد تھانوی کو حضرت قطب عالم حاجی صاحب قدس سرہ کے مجاہنے کے پوتا — اور مجاہنی کی پوتی کا قواسم اور بے اطمینان خوشہ چیز اور حضرت حکیم امانت محمد و الحلت مولانا اشرف علی صاحب کا زبیب داماد ہر نے ازیر اعلان رہنے سے پھر حضرت مولانا اظر احمد صاحب عثمانی مدظلہ کے حکم سے یہ جرأت ایک فریضہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فخر رہیں!

## جمیل احمد تھانوی

صفتی جامعد اشرفیہ  
مسلم ٹاؤن۔ لاہور،

حوالہ  
۱۳۹۱ھ

اما بعد فیقیر امداد اللہ الحنفی الحشمتی سب مسلمانوں کی خدمت میں خصوصاً جہاں فقر  
سے رلٹ و تعلق رکھتے ہیں عرض کرنا ہے کہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ یعنی اتفاق یا عیش  
برکات دینی و دینی اور نما اتفاقی موجبہ هفت دینی دینی ہے اور آج کل بعض مسائل فرعیہ  
میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے شرودر و فتن پیدا ہو رہے ہیں اور  
خواص کا وقت اور عوام کا دین صدائ ہو رہا ہے، حالانکہ اکثر امور میں محسن زیارع الفتنی

لئے علم ظاہر میں امام اعظم البوحنیہ کا پیر اور باطنی علم و عمل میں سلسلہ چشتیہ سے والہست:  
لئے عقیدت اور مریدی کا۔  
لئے گذارش پہنچانے والا۔  
لئے یہ بات تو سب کی مانی اور تسلیم کی ہوئی باقاعدہ میں سے ہے۔

هے دین و دنیا کی برکتوں کا سبب ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ لَا تَنَازِعُواْ نَفْسَنَا وَ كُنْدُهْ بِرِحْكَمَةِ (تم)  
آپس میں جھگڑہ امت کیا کرو، ورزہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور قیاری ہوا اکھڑ جائیگی یعنی ذلیل ہو جاؤ گے اور اس اتفاق  
و اتحاد کا گز جی تباہ ہے وَ اتَّقِهِمُواْ يَعْتَبِلُ اللَّهُ جَيْلِيْا (تم سب اشد کے تعلق (دوین) کو رکھتے ہو کر منصبی سے  
سنبال ہو کر ذرا بھی بھی بیشی نہ کرو۔ اگر بھی بھول جو کہ ہو جائے تو اس کا علاج بھی فرمادیا ہے، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (اور اگر تم کسی چیز کے بارہ میں جھگڑہ بھی بیختر تو اس کو اللہ اور رسول کی  
درست نہ کرو،) جو بات وہاں ہے اسی کو اختیار کرو، اپنی کوئی تجویز بالکل نہ کرو۔

لئے دین و دنیا کے ضرر کا ذریمہ کہ برکت سلب ہوتی ہے۔ غیبت، حسد، بدگونی، بدگافی، مسلمان کو اذیت  
و دینا وغیرہ گناہ اور ان کی بدولت و بمنیان پیدا ہوتی ہیں۔ لذا ایسا چھپڑ جاتی ہیں۔

لئے جو عمل سے قلع رکھتے ہیں عقیدہ سے نہیں یا عقیدہ سے نعلق تو ہو مگر اس کی باریکیاں معلوم کرنا عام پر فرض  
نہ ہو، ہاں اگر عام عقاید میں مخلک ہو کہ ایمان پر حمد ہو وہاں خاموشی درست نہ ہوگی ہے جیاں اور فتنے

لئے علاوہ اور بذرگوں کا وقت بجائے دین کے اہم اور مشتبہ کاموں کے ان میں لگ کر ضائع ہو تاہے۔  
لئے کروہ حد سے بڑھ جاتے اور گناہوں میں بہلا ہو جاتے ہیں اور کام دین کا سمجھتے رہتے ہیں تو دین برداہ ہو تاہے  
اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ بعض دفعہ شرک میں بہلا ہو کر اسلام سے فارج اور بھیتہ کو تہنی بن جاتے ہیں  
اللَّهُ أَنْتَ جَبَرُواْ يَعْنِي فَذَا اللَّهُ أَكْبَرُ بَلْ مَقْسُورُ دُولَنَ کَا ایک ہے کہ کوئی مسلمان یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی بھی اللہ  
تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ذرہ برا بر بھی بھی یا زیادتی کر دے تک کم علی یا کم بھی سے  
یا نظر نہیں دیکھنے سے لفڑا یا ایسے ہونے لگے جو سے اختلاف معلوم ہونے لگا یا دوسری پڑھ فیگری ہونے لگی، ان کی تحقیقت  
سائنس آجائے تو سب سیدتے راستہ پر ہیں اور ایک دوسرے کے دو شد و شد دین کے کام کرتے رہیں؟

## فیصلہ مفت مسلم

ظُوبیٰ حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب ہبہ جوہ مکھی  
نور اللہ مکار فتدائہ  
مع شرح وضییمہ جات و متعلقہ حالات و سوال و جوابات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمد الله و نستعين به و نتوكل  
عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهدى  
الله فلامضى له ومن يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا  
الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد  
عبدالله و مرسوله .

ہے اور مقصود مخدود، چونکہ عموماً مسلمانوں کی اور خصوصاً اپنے تعلق والوں کی حالت دیکھ کر نہایت صدمہ ہوتا ہے۔ اس لئے فقیر کے دل میں آیا کہ مسائل مذکورہ کے متعلق مختصر مفہوم تکمیل کر کے شائع کر دیا جائے۔ اُبیر قوی ہے کہ یہ نزاع و جدال رفع ہو جاوے، ہرچند کہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کثرت سے ہیں، مگر فقیر نے انھیں مسئلہ کولیا، جن میں اپنی جماعت کے لوگ مختلف تھے۔ ڈو وجہ سے، اول تو کثرت اختلافات اس درجہ پہنچنی ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ دوسرے ہر شخص سے امید قبول نہیں، اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں اولاً وہ محدود، دوسرے امید قبول غائب۔ پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ قیلہ و قال ہے سات ہیں۔ پانچ عملی ڈو علمی، ہر تیپ بیان میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جن میں سب سے زیادہ لفتگو ہے اس کو مقدم رکھا۔ جس میں اس سے کم ہے اس کے بعد علی ہذا القیاسش، اور اپنا مشرب اور ایسے مسائل میں جو عمل درآمد مناسب ہے نیز لکھ دیا گیا، حق تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ یہ تحریر باعث رفع فساد باتی ہو جاوے، اور حضرات بھی اگر اس کو قبول فرمائے متفق ہوں تو وعاصہ یاد فرماؤں اور کوئی ہا جبا س تحریر کے جواب کی نکر نہ کریں کہ مقصود میر انصاف رہ کرنا نہیں ہے۔ واللہ ولی التوفیق ۷

لئے جبکہ اور دوسرے کی بات کو خواہ کیسی بھی ہو تو ڈناؤ جو ہو رہا ہے اٹھ جائے اور جو جو فلواد و زیادتیاں ہر ایک نے کر دی ہیں وہ ختم ہو کر ایک دوسرے سے دست دگریاں نہ ہوں صحیح را پر رہیں اور دین کے کام کریں۔

لئے اختلافات کرنے والے لئے گئے چینی یعنی چند لئے کہاں سنبھلی بحث و مباحثہ،

لئے اس طریقہ جو دلائل سے قوی اور قلعوں سے بچا ہو لے ہے مناسب بھی ہے کچھ آپس کے جھگڑوں کو ڈو کرنے کا سبب ہو جائے کہ دنوں کو غلوکرنے سے بچایا ہے اور جگہ کے کام سبب مسائل نہیں ہوتے ڈو ایک دوسرے پر غصہ کرتا اور جو اپنا بھی سبب ہوتے ہیں ورنہ ساری دنیا میں اور ہر بات میں اختلاف ہوتا ہے اور جگہ انہیں پرتاب ہزرا لعنة دینے اور جبرا کرنے کی محنت کے اگر لوگ طعن کرنا مرا اکنچھ چھوڑ دیں آفیا دنہو۔

لئے اللہ تعالیٰ بھی آفین دینے والے ہیں یہم کو ایسے بیان کی اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی:

تفصیل ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت جانتا ہے اور کسی مصلحت سے اس کی بہیثات معین کری، اور مثلاً تفظیم ذکر کو ہر وقت متحسن سمجھتا ہے مگر کسی مصلحت سے خاص ذکر ولادت کا وقت مقرر کر لیا، اور مثلاً ذکر مولود کو ہر وقت متحسن سمجھتا ہے مگر بصلحت سہولت دوام یا اور کسی مصلحت سے ارادہ بیان الاول مقرر کر لی اور کلام تفصیل مصالح میں از لبس طویل ہے۔ ہر محل میں جدا مصلحت ہے، رسائل موالید

اللہ یعنی ثواب نہ کر خدا کی بندگی۔

اللہ صحیح ہو تو غلط مگر اپنے گمان میں مصلحت و من سب سمجھ کر رواجی تعظیم بن لکر۔  
اللہ ذکر کی تنظیم کی یہ صورت گو بے اصل ہو کہ تنظیم کے نئے کھڑا ہو۔  
اللہ عارضی مقرر کری، کم کبھی کر لی کبھی نہ کی۔

اللہ صحیح یا غیر صحیح سے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا سہولت ہے۔

اللہ مگر اس غیر اختیاری بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری ارشادات و عبادات، مخالفات و حالات کے ذکر سے افضل قرار دیکریں اُن پراہمیت دیکریں نہیں محسن حضرت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔  
اللہ عارضی مقرر کرنا کم کبھی کوئی تاک اور لوگ از خود شریک ہونا چاہیں تو ان کو سہولت ہو کوئی ضروری بن لکر نہیں کا فروں کی مشاہدت سے نہیں کردے ڈے ملتے ہیں اور دہمیہ کے لئے ایک دن تاریخ وقت نہیں کی ان کی مشاہدت ہو یا ضروری ہیں سکتے۔ شہزاد فرض واجب سنت نہیں متحبب ہر وقت،

اللہ کم متحبب پر وام دینی پابندی بغیر ضروری قرار دیتے کہ نہ عقیدہ میں نہ عمل میں ضروری ہو تو سحر نہیں یا حرف عمل میں جس کی تفصیل اور گذری یہ سب اس حدیث سے بدشت اور جہنم کا

اللہ دین کی مصلحت سے کہ یادِ عورت کے از خود شریک ہونیوالوں کو سہولت ہو مگر عقیدہ باعل میں ضروری نہ قرار دین نہ ایسی جگہ کریں جہاں کفار کی مشاہدت ہے۔ یا فرض مو ایوب عقیدہ یا عل میں کر کے لوگ کرتے ہوں اگرچہ دل ان سے خافی ہو کہ پھر بھی ان کی مشاہدت ہے بلکہ کافر کی مشاہدت بھی ہے ٹھیک ہم دون اور برسمی جوان کا شعار تو ان ہے اسکی مشاہدت ہے گناہ ہے۔ ادار و ضرر دل کیلئے سندِ جواز اور واجب کی صورت بن کر گناہ کا سبب ہو گا مخفقاتفاق سے ہو جیکہ کوئی الگ الگ تاریخ و وقت مقرر کئے جائے تھے اقتت یہ ۲۰ تاریخ کا ہو گی جو حضور کی وفات کی تاریخ میں وفات کی تاریخ کوئی الگ الگ تاریخ و وقت مقرر کئے جائے تھے اقتت یہ ۲۰ تاریخ کا ہو گی جو حضور کی وفات کی تاریخ میں وفات کی تاریخ پر ولادت کا ذکر بنا لہرتا مزدود ہے۔ اللہ کر کبین تغییل کہیں فضاد و مسم کی بھی ہے۔ گروفات کی تاریخ پر ولادت کا ذکر بنا لہرتا مزدود ہے۔

اللہ کم محسوسیتی کی فرما دنی کی ہے اسکی تاریخ کی موقع کہیں خلکت کا دفعہ جس وقت جہاں بزرگان مصلحت

اللہ میسا دوں کے رسالوں میں کبھی یہ تاریخ میں آجائے تو کیا من الماء ہے جب کہ بیت خالی ہے۔

فضیلۃ الذکر اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کریا جاوے کے نظر من الامل فی قوله عليه السلام من احادیث فی امرنا هذاما

لیس منه فہرست الحدیث، پس ان تفصیلات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے، اور ہمیشات سبب کو مصلحت سمجھتا ہے، تو بدعت نہیں، مثلاً عمل قیام کو لذائیں عبادت نہیں اعتقاد کرتا، مگر

اللہ جس کی دو صورتیں ہیں اُبک یہ کہ جو کام دین میں نہ تھا اسکو دین اور ثواب قرار دے لیا دوسرے یہ کہ جس کا دین میں جو درجہ مرتکب اور دین میں داخل کر کے دیدیا کہ جو بات فرض واجب نہ تھی صرف مستحب یا اخر جائز تھی، اس کو فرض یا واجب بتایا، پھر اس کی بھی در صورتیں ہوں گی یا آنکھی دین غرض یا دو اجر سمجھنے لگے میں اس پر فرض واجب کی طرح عمل کرنے کے ہمیشہ اور ضروری قرار دیکھ کرنے لگے، جس کی علامت یہ ہو گی کہ ذکر نہیں اول کو ایسا کہتے یا سمجھتے ہوں۔ جیسا فرض یا واجب نہ کرنے والے کو کہا یا سمجھا جاتا ہے۔

اللہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں عنود کر لیئے ہے ظاہر اور ہمیں کہ جو شخص ہماسے اس کام (دین) میں کوئی نئی بات پیدا کریگا۔ جو دین سے لی جوئی نہیں دو مردوں ہے (بخاری) نئی بات کرنے میں دلوں صورتیں داخل ہیں غیر دین کو دین اور غیر فرض واجب کو فرض واجب بتا دینا۔ ایسا کرنے والا کبھی مرد و شے اور ایسا کام بھی مرد و دد ہے پھر فرض واجب نہ لے کی جیسی دو صورتیں ہیں عقیدہ میں فرض واجب یعنی ضروری قرار دینا یا احرف عمل میں جس کی تفصیل اور گذری یہ سب اس حدیث سے مرد و داد پہلی حدیث سے بدشت اور جہنم کا ذریعہ ہو سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں۔

اللہ اصل عبادت کو خود میں کارثوب نہ کسی اور عبادت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے کارثوب نہ سمجھا جائی ہو تو اگر یہ پہنچیں ایسی نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ سمجھتا ہے۔ لگھے ان کی خود ذات کو تصرف جائز قرار دیتا ہے، کہ نہ کرنے میں ثواب اور نہ ترک کرنے میں لگنا یا کراہت کچھ نہیں جانتا دونوں تباہیں برائے سمجھتا ہے۔

اللہ جن کی وجہ سے یہ کرتا ہے تعظیم رسول وغیرہ صرف اس کو ثواب نہ کر خدا کی عبادت۔

اللہ اس وجہ تعظیم کی ان خصوصیتوں والی صورت کو لگھے صرف مناسب یا اچھی صورت ضروری نہ ثواب اور دینی متن کو دوسرے فائدہ لیں۔ اللہ کیونکہ غیر ثواب کو ثواب نہیں بنایا اور عرب میں ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ کہ ان خاص خاص صورتوں کو نہ ضروری قرار دیتے ہیں نہ ثواب۔ لیکن اگر کہیں کوئی ان کو بھی ضروری و ثواب قرار دیگا تو ضرور بدعت ہو گا۔

اللہ خود اس کی ذات کو ثواب نہیں اعتقاد کرتا بلکہ ثواب کی بات کا ذریعہ سمجھتا ہے یعنی تعظیم کا ذریعہ

میں بعض مصالحہ مذکور بھی ہیں۔ اگر تفصیل کو عقیق مطلع نہ ہو تو مصلحت اندیشان پیشین کا اقتدار ہی اس کے نزدیک مصلحت کافی ہے۔ ایسی حالت میں یہ تخصیص نہ ملزم ہیں لیکن تخصیصات اشغال و مراقبات و تعینات رسوم مدارس خالماجا اسی قبیل سے ہیں۔ اور اگر ان تخصیصات کو قربت

مقصودہ جانتا ہے مثلاً نماز روزہ کے تو بیشک اس وقت یہ امور بدعت میں مسئلہ یوں اعتقاد کرتا ہے اگر تاریخ میں پرمولڈ نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا یا بخورد شیر سنی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب ہی نہ ملا تو بیشک یہ اعتقاد مذکوم ہے کیونکہ حدود شرعیہ سے تجاوز ہے جیسے عمل مباح کو حرام اور حلال سمجھنا بھی مذکوم ہے فرض دونوں صورتوں میں تعدادی مدد

اہ کوئی عاجی نادائق کے وقت کی مدد دیجات کرنے جانتا ہو۔ اور اگر ان امور کو ضروری ہے واجب شرعی نہیں سمجھتا بلکہ ضروری ہے موقع علیہ بعض البرکات میں پیٹے کے مصلحت دیکھنے والوں کی پیروی یا اس وقت کے مصلحت پر نظر رکھنے والوں کی پیروی کرسے غرض ذاتی حالات فضای موسم کو جانتے والوں کی بات مان لے۔ یہی اس کے لئے مصلحت ہے کہ وہ مدرس مادرب وقت میں عارضی مقرر کریں گے کہ جس وقت جہاں آزاد میں ہو جائے میں سفر جانکی مانع ہے کہ سب جلوسوں پر غلطیں کیلئے جو برابر ہے مثلاً جو بہت اگر راحت آرام کی ہو گی، بہت ہی، راحت وہ ہی ہے۔

کچھ تصریف کے خاص شکدوں اور مراتبیوں کی خاص، میا توں درسون اور خانقاہوں کی معین کی ہوتی صورتوں باقاعدہ قانون کرائیے ہی سمجھو،

۵۔ درسون کے رسم درواج قانون باہمی اور خانقاہوں کے۔

۶۔ بسی طرح کے ہیں کہ بعض سہرت اور تنظیم کی مصلحتیں سے ہیں زمان خاص صورتوں کو کوئی شرعاً ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کرنے کو گناہ کہتا ہو، یا خلاف کرنے والوں پر اعن طعن ان کی تحریر و تذلیل کرتا ہو، نہ دوسرے طریقوں کو یا بالکل بھی کوئی طریقہ قائم نہ کرنے کو ہر افراد دیتا ہے نہ ان کو مجرم سمجھتا ہے زمان خاص صورتوں کو ثواب اور دوسرا صورتوں کو ثواب سے خالی تر ارتدا ہے اسی طرح جہاں میلاد میں بھی یہ خصوصیتیں اسی قسم کی ہوں جیسے مکمل مکرمہ وغیرہ میں نہ ان کو حب کہ وہاں ایک ضروری سمجھنے والوں سے مشاہدہ اور سند جواز بننے کے لئے وہاں بھی سخطہ نہیں منع نہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر ان کو واحب عقیدی یا ملی سمجھنے لگیں یا بذات خود ثواب بنالیں تو بذات قربت اور شدید گناہ بوجائیں گے۔ بخواہ اشغال و مراقبات ہوں یا درسون خانقاہوں کے قانون باہمی یا ذکر دلات ہو یا اس پر قیام ہو یا اور دوسری دن تاریخیں ہیں اسی میں کیفیت و کیفیت کی خصوصیات سب بدعت اور حدیث سے مردود نہیں ہیں بلکہ اگر نیت میں تصور نہ ہو، مگر اس مقام پر عقیدہ یا عمل میں فرض واجب قرار دینے والے موجود ہوں، تو گویہ سب کام بدعت تو نہیں ہوں گے، مگر ان کی مشاہدہ اور قام و گوں کے لئے جواز کی سند بننے کا گناہ ہو گا۔ اس لئے ایسے مقام پر منع کرنا واجب ہے۔

کچھ اصل عبادات نہ کر ذریعہ عبادات یعنی خود ثواب گو خدا درسون نے ان کو ثواب میں بتایا ہے تو پھر یا تہمت ہو گی، یادیں کی ترمیم؛

۷۔ جیسے وہ فرض ہیں یا واجب ہیں کہ کرنے والا سخت گناہ گار اور اعن طعن کا محتق قرار پاتا ہے ان کو نہ کرنے والا بھی گناہ گار اور محتق اعن طعن کا قرار دیا جائے۔

۸۔ مثلاً دھونی نوبان وغیرہ کی اور مٹھائی۔

۹۔ مثلاً ہر گناہ اور بدعت بے اور یہ فعل بھی گناہ بے بدعت بے کہ دین کو ناقص قرار دیکر ترمیم کرنا ہے۔

۱۰۔ مثلاً شریعت کی حدود سے باہر نکلنا دین میں ترمیم اللہ رسول کے احکام کو ناقش کینا اور ایک قسم کی بناد و توہین ہے جائز کام کو گناہ، مگر اسی سمجھنا بخوبی منع ہونہ مکروہ ہونہ لوگ اس کو عقیدہ یا عمل میں واجب بناتے ہوں۔

۱۱۔ کچھ شریعت کی حدود سے زیادتی کر کے نکلتا ہے گا وغیرہ ہے۔

۱۲۔ شے کہ جیسے شریعت کے واجب کے ترک کرنے والے کو گناہ گار اور محتق اعن طعن قرار دیا جاتا ہے۔

۱۳۔ ان سب کے ترک کرنے کو ایسا نہیں سمجھتا بلکہ ترک والوں کو بھی سمیع ہی سمجھتا ہے۔

۱۴۔ مثلاً بعض برکتوں کے اس پر موقف ہونے کی بناء پر ضروری یعنی فائدہ مند جانتا ہے نہ کہ واجب،

۱۵۔ مثلاً عمليات میں جو دین کا کام نہیں علاج و داکی طرح دنیا کا کام ہیں کچھ خاص خاص بالیں ہو اکری ہیں۔ وہ نہ بول تو تحریر ہے کہ اثر نہیں ہوتا، بلے فائدہ بوجاتا ہے۔ مگر ثواب کی ہوئیں

۱۶۔ مثلاً فائدہ نہ ہو گا کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ اس کے موافق کرنا کوئی ثواب کی بات۔ حرف نیوی میں بونے کی یاد ہونے کی بات ہے گویا دنیا کے فائدہ کے لئے ضروری سمجھا ہوا ہے۔ دنیوی فائدوں کا ہزار نہ موتا زیادہ تر تحریرات سے معلوم ہوتا ہے خاص ان کے لئے وحی نازل نہیں ہوتی اور دینی و اخلاقی فائدہ

۱۷۔ فرائض خدا درسون کے بی ارشادات سے معلوم ہو سکتے ہیں، وہ تحریراتی نہیں ہوتے نہ کشفی۔

اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دلیل اس توقف کی موجданِ اعمال کا تجربہ یا کشف دالہام ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عمل مولود کو مہیا کرنا ایسے وجہ بعض برکات یا آثار کا پنے تجربہ سے یا کسی صاحب بصیرت کے وثوق پر سمجھے اور اس معنے کہ قیام کو ضروری سمجھے کہ یہ انداز خاص مدون قیام نہ ہوگا۔ اس کے بعدت کہنے کی

لئے تو کسی دنیوی فائدہ کے تجربے کی بنا پر یہ فائدہ یعنی کے لئے ضروری سمجھا خواہ یہ غلط ہو یا صحیح اس کا دین اور ثواب ہونے سے کوئی تعلق نہیں اس لئے بعدت نہیں کہلا سکتا۔ ہاں شرعی واجب یا ثواب سمجھتا تو بعدت ہونا ضروری نہیں۔

۲۷۰۰ءے فائدہ کے امن خالص حالت پر موقف ہونے کی دلیل ان عمیقات کو ایجاد کرنے والوں کا تجربہ یا کشف دالہام ہے جو ان کے حق میں تو قابل قبول ہوگا، دوسروں کے لئے دلیل نہ ہونے گا چاہے کہیں چلے ذکریں۔ یا خود تجربہ کر کے ذکریں اور اکثر قویں دلیل کو رقت دل میں جانے کیلئے ایسی باتیں کرتے ہیں لئے اور عملیات کا ہر شخص بھی تجربہ کر کے دیکھ دیکھ سکتے ہے کہ اسی طرح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور خلاف کرنے سے نہیں ہوتا، اور کشف ہر ایک کو ہوتا نہیں جن کو ہوتا ہے ہر وقت نہیں ہوتا اور دوسروں پر دلیل نہیں بتا۔ مگر ان مالکوں کو گنجائش دیتا ہے اور تجربہ یا کشف سے فائدہ دنیا کا ہی معلوم ہو گا کیونکہ ثواب ہونا تو قرآن و حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے۔ چھپریہ فائدہ کیفیت ولذت کے سوا کچھ نہیں ہر سکتا۔ اور کشف دالہام کا بھی جب احتمال ہو گا اگر وہ متعلق پر ہر زیگار ہو نقل صوفی، دھوکہ باز نہ ہر اگر کشف کا اہل نہ ہو تو یہ حجۃ اور دھوکہ ہوگا۔

۲۷۱۰ءے جیسے یہ دنیوی فائدہ ایک خاص ہدایات سے ہوتے کا تجربہ بالعملیات کے ایجاد کرنے والوں نے صرف تجربہ یا کشت سے بتایا ہے ایسے ہی اگر کوئی مولود کو ردا جی طریقہ پر کرنے کے تجربہ یا اس کے خیال کے موافق کشت سے اس طریقہ کو کسی اثیا برکت یا کیفیت ولذت کا سبب سمجھے یا کسی ایسے تجربہ کا روپ محرر کر کے سمجھے۔ اور اس تجربہ کی فائدہ کے لئے ضمید یا ضروری سمجھے تو بعدت نہیں کہ نہ ثواب قرار دیا نہ واجب گو دین کے کام کو دنیا کے لئے بنانا اچھا ہو مگر بعدت تو نہ ہوگا الفضل بیشک میں ہو گا کہ جو ثواب کا کام ہو وہ کمی کے ایسی ہدایات سے ردا جی طریقہ سے۔

۲۷۲۰ءے دل کی بینائی رکھنے والے کے جھروں پر۔ گز کشف ہر ایک کو ہوتا نہ صاحب کشت کو بھی ہر وقت ہوتا نہ ضروری ہے، نہ وہ دوسروں کے لئے جب تک نہ ایک کا دوسرا کے موافق کسی کاچھ کسی کا کچھ نہ دل تاریخ کا ایک نہ ہدایات ایک خصوصیات ایک جلیسی کے فرن اس فائدہ کی وجہ سے منسب نہ کہ شرعی ضروری واجب یا ثواب یعنی مخفی فائدہ مند سمجھے کہ ولذت و کیف اس سے ہو گا نہ کہ ثواب کردہ تو ہر حال میں ہے۔

کوئی وجہ نہیں اور اعتفاد ایک امر یا طن ہے۔ اس کا حال بد و دن دیافت کے ہوتے یقیناً معلوم نہیں ہو سکتا، بعض قرآن تجھیس سے کسی پر بد گھانی کرنا اچھا نہیں۔ مثلاً بعض لوگ تارکین قیام پر ملامت کرتے ہیں تو ہر چند کہ یہ ملامت بے جا ہے کیونکہ قیام شرعاً واجب نہیں، پھر ملامت کیوں؟ بلکہ اس ملامت سے شبہ اصرار کا ہوتا ہے جس کی نسبت فقہاء فرمایا ہے کہ اصرار سے مستحب بھی معصیت ہوتا ہے مگر ہر ملامت سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ شخص معتقد وحجب قیام کا ہے درست نہیں کیونکہ ملامت

لئے کیونکہ بعدت تو غیر دین کوین غیر ثواب کو ثواب یا غیر واجب کو واجب بنانا ہوتا ہے یہاں یہ ایک دنیوی تجربہ ہے نہ کا رثواب نہ شرعی واجب پھر بعدت کیوں ہو گا ہاں اگر اس کو ثواب یا واجب عقیدہ میں ہاں میں قرار دے تو بعدت ہو گا یا جیاں ایسے کرنے والے ہر دن تو ان کی مشاہدہ اور سند جواز نہیں کا گز ہو گا۔ وہ الگ حکومت ہے، بعض پر ضرورت کو بعدت بکر دینا ٹھیک نہ ہو گا۔

۲۷۲۰ءے دلائل سے ہجان غالب کا دو جو ہری تو ہر سکتا ہے ممکن یقین دریافت سے یہی ہر سکتا ہے کسی کاہمیشہ کرنا اس کو واجب سمجھنے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ترک کرنے والوں پر سختی سے دار و گیر ان کو فاسد و گراہ قرار دینا لعن شعن کرنا یہ دلیل واجب اعتفاد کرنے کی ہو سکتی ہے۔ وہ کم سے کم اس کو عمل میں واجب کر دینے کی تو یقین ہو جائیجی اس وقت جرم ہے گی۔ اس وقت تو نہیں۔

۲۷۳۰ءے سبب تک ان کی زبان سے یا عمل سے وحجب عقیدہ یا عمل میں ز معدوم ہو جائے تک گھان رکھنا چاہئے اگر وہ تک ہو گئے ثابت بھی نہیں بلکہ ضرورتے تو ذات پاک لئے بھی کھڑے ہونے کو ناپسند کیا ہے جو حدیثوں میں ہے۔ اب قیام نہ کرنے کو گناہ بنا حضور کی پسند کو گناہ کہنا ہے اور قیام کو اچھا کہنا حضور کے ناپسند کریں کہنا ہے جو تہمت اس طریقہ کو کسی اثیا برکت یا کیفیت ولذت کا سبب سمجھے یا کسی ایسے تجربہ کا روپ محرر کر کے سمجھے۔ اور اس تجربہ کی فائدہ کے لئے ضمید یا ضروری سمجھے تو بعدت نہیں کہ نہ ثواب قرار دیا نہ واجب گو دین کے کام کو دنیا کے لئے بنانا اچھا ہو مگر بعدت تو نہ ہوگا الفضل بیشک میں ہو گا کہ جو ثواب کا کام ہو وہ کمی کے دل کی بینائی رکھنے والے کے جھروں پر۔

۲۷۴۰ءے بعثت اور فتن دخیل شراب جو تے سے بر جد کر گناہ ہوتا ہے کہ خدا رسول پر ہر دن دین میں نہیں اصلاح سے ان کی توہین ہے۔

۲۷۵۰ءے کیونکہ بلکہ بات پر ہیکی، سخت پر سخت ہوئی ضروری ہے۔ الفاظ ہم بر تاریخ میں سختی ہے تو واجب کے حکم پر ہونے کی دلیل ہے۔ زمیں سب سے تری مختب یا دنیوی فائدہ کے ترک پر ہونے کی دلیل ہو یعنی ابذا فرم افظ و ایجہ و بر تاریخ میں ملامت کو ترک واجب کی ملامت اور اس کام کو واجب سمجھنے کی دلیل بنانا درست نہیں جیسا کہ سخت سخت نہ ہو

کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں۔ کبھی اختقاد و حجوب ہوتا ہے کبھی مغض رسم و عادت خواہ عادت دنیوی ہو یا ملبنی کسی سبب دینی پر ہو، کبھی وجہ ملامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل اس لام کے زعم میں۔۔۔۔۔ خواہ زعم صحیح ہو یا فاسد کسی قوم بدعتقیدہ کا شکر ٹھہر گی۔ اس فعل سے وہ شخص استدلال کرتا ہے کہ یہ بھی امہنی لوگوں میں ہے اس لئے ملامت کرتا ہے شکر ٹھہر گی۔ اس نے بزرگ مجلس میں تشریف لا دیں اور سب کی تنظیم کو کھڑے ہو جاویں۔ ایک شخص بیٹھا رہے تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی

لئے یار سفر عادت ہے، مگر کسی دینی سبب پر اس کی تباہی کی خلافت کی۔ اور کلمتی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے کہ اس کی خلافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بات ہے۔ اس غلط فہمی دلائلی سے ملکی سی ملامت کو گزرا ہے تو وہ دلیل اس کو کھڑے ہو جاویں۔ ایک شخص بیٹھا رہے تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی

لئے یار سفر عادت ہے کہ کیا جائیگا کہ کیا ہو آکے ہے یہ ضروری کام کیوں ہوں گے کہ ملامت میں فرقہ ہو گا۔ مثلاً ورنوں کے چھوڑنے والے کو سخت لغتوں سے کہا جائیگا کہ کیا ہو آکے ہے یہ ضروری کام کیوں ہوں گے کہ ملامت میں فرقہ ہو گا۔ اور حضور نماز کے پڑتا، فاست بن جاتا ہے اور ایسا دلیل اس کے عقیدہ یا عالم میں واجب قرار دینے کی ہوگی۔ اور حضور نماز کے مستحبات یا نفل ترک کرے تو سخت لمحہ میں نہیں نرم اور ترغیب کے لمحہ میں بالکل ملامت ترک کرنے پر ہوگی۔

لئے ملامت کرنے والے کے مگان میں چاہے مگان صحیح ہو یا غلط خوشیت و ملامت کا اس کے سوا اور کوئی ایسا نہ کرتا ہو۔

لئے دلیل لیتا ہو خواہ غلط یا صحیح۔ مگر اس کی ملامت یہ ہو گی کہ یہ کسی قوم کی علامت نہیں۔ ہر گھری لخداۓ کا کام ہے۔ یا یہ معلوم ہونے پر کم یہ ان میں سے نہیں ہم نے غلط سمجھ لیے تو ملامت و معدودت ہو کر معافی طلب کی جائے گی۔ یہ بات نہ ہو گی تو عفیٰ تاویں بخے گی۔ غرض جنتیک حقیقت نہ کھلے گی احتمال رہے گا۔ اس لئے فوراً بدعت کا حکم نہ لگانا چاہئے۔

لئے گو اس کا یہ قیاس ہے احتیاطی کا ہے اور یہ قیاس ہی سب و ختم اور فتنہ و فادہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر ملامت کا سبب ایک غلط نہیں تو ہوئی ترک واجب تونہ ہوا۔ اس لئے اس کو بدعت نہیں کہ جائے گا جب حقیقت سائنس آجیلے گی۔ پھر نہ ملامت و معدودت نہ ہوئی تب یہ دلیل اس کی بن سکتی ہے کہ یہ غلط فہمی پر ملامت نہ ہوئی۔ اصل بات غیر راحب کو واجب قرار دیکر ہی بھی چھر یہ ملامت واجب سمجھنے کی دلیل ہو کہ بدعت و گراہی ہو سکتی ہے ابھی نہیں اسلئے جلدی سے کوئی رائے نہ قائم کرنے چاہئے۔ لئے گو یہ کھڑا ہونا نہ فرض ہے نہ راجب نہ سدنت نہ مستحب بلکہ حضور کا ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا ہے کہ تم عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو اگر وہ جب ذات مبارک کے لئے منہ فرمایا تو ذکر کے لئے اعلیٰ درجہ میں منہ ہوا حضیر کے منع کئے ہوئے کو واجب یا معتبر اور منہ کریکو پر اقرار اور دینا حضور کی بے قیمتی ہو گی۔

نہیں کرتا کہ تو نے واجب شرعی ترک کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ وضع مجلس کی مخالفت کی۔ یا مثلاً ہندوستان میں عموماً عادت ہے کہ تزاویہ میں جو قرآن مجید ختم کرتے ہیں شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اگر کوئی شیرینی تقسیم نہ کرے تو ملامت کریں گے مگر صرف اس وجہ سے کہ ایک رسم صالح کو ترک کیا۔ یا مثلاً بحق کہنا کسی زمانہ میں مخصوص معتبر نہ

لئے ایک رسم پڑی ہوئی کی خلافت کی۔ اور کلمتی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے کہ اس کی خلافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بات ہے۔ اس غلط فہمی دلائلی سے ملکی سی ملامت کو گزرا ہے تو وہ دلیل اس کو کھڑے ہو جاویں۔ ایک شخص بیٹھا رہے تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی

ہوئے پر خود اپنی ملامت پر ملامت کرنے لگے گا۔

لئے یہ بیٹھا کی تقدیم کرنا دو طرح ہے، ایک تو یہ کہ سنانے والا اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویت کرنے کے لئے کو سخت لغتوں سے کہا جائیگا کہ کیا ہو آکے ہے یہ ضروری کام کیوں ہوں گے کہ ملامت میں فرقہ ہو گا۔ پڑتا، فاست بن جاتا ہے اور ایسا دلیل اس کے عقیدہ یا عالم میں واجب قرار دینے کی ہوگی۔ اور حضور نماز کے مستحبات یا نفل ترک کرے تو سخت لمحہ میں نہیں نرم اور ترغیب کے لمحہ میں بالکل ملامت ترک کرنے پر ہوگی۔ تو نرم و ترغیب کی صورت میں ہوگی۔ یہ دلیل اس کو واجب نہ سمجھنے کی ہوگی۔

لئے ملامت کرنے والے کے مگان میں چاہے مگان صحیح ہو یا غلط خوشیت و ملامت کا اس کے سوا اور کوئی ایسا نہ کرنے کا کام ہے۔ یا یہ معلوم ہونے پر کم یہ ان میں سے نہیں ہم نے غلط سمجھ لیے تو ملامت و معدودت ہو کر معافی طلب کی جائے گی۔ یہ بات نہ ہو گی تو عفیٰ تاویں بخے گی۔ غرض جنتیک حقیقت نہ کھلے گی احتمال رہے گا۔ اس لئے فوراً بدعت کا حکم نہ لگانا چاہئے۔

لئے اپنی بات کے احتیاط کی جائے۔ تو راؤ بدعت نہ کہا جائے۔ ہاں منہ کیا جائے۔

بدعت کہلا سکے اس لئے احتیاط کی جائے۔ تو راؤ بدعت نہ کہا جائے۔

لئے حافظ کے تقدیم نہ کرنے پر محرومی ملکی سی نہ کہ چندہ والی پر اور مسجد والی پر درستہ ملامت خود ملامت کے قابل ہے۔

لئے اپنی بات کے حافظ کا شکریہ ادا کرنا صدقہ و خیرات سے بہتر ہوتا تھا۔ وہ نہ ہوا تو یہی سہی کہ شکریہ ملامت تو ہے جب کم تقدیم اور پھر شیرینی ضروری نہیں قرار دی ملتی۔ مسجد کی بے حرمتی نہیں کی۔

لئے ایک گراہ فرم عقل پرست تھا۔ کہ جو بات دین کی اس کی عقل میں نہ آتی تھی اس کو نہ مانتا تھا جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ایسے نئے نئے ہو رہے ہیں۔

کے ساتھ تھا کوئی ناواقف کسی شخص کو سخت کرتا ہوا اُس کر اس خیال سے مامت کرتا کہ یہ شخص بھی اُسی قسم کا ہے اور اُس سے اُس کے دوسرا عقائد پر استدلال کر کے مخالفت کرتا۔ بہر حال صرف مامت کو دلیل اقتداء و وجوب مٹھر ان مشکل ہے اور فرضًا کسی عامی کا یہی عقیدہ ہو کہ قیام فرض و واجب ہے تو اس سے صرف اس کے حق میں بدعت ہو جاتے گا جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہنس ان کے حق میں شکح و مستحسن ہے گا، مثلاً مقتدر وین رجعت قہقری کو ضروری سمجھتے ہیں تو

لئے معتزلہ فرقہ کا ہے، اس وہی دلیل پر ہی اسے یہ کہہ دیا جائے۔ گودہ بالکل خدا پرست ہی ہر تو غلطی سے ایسا مگان کر دیا گیا غلطی معلوم ہر فر پر مذہرات اس کی خلافت ہو گی۔ لئے دلیل لیتا، گو سب خلط و بحث و تباہی قلم ہوتا ہے مخالفت غلط در غلط ہوتی ہوتی ہے جو حقیقت کلتے پر شرمندگی و مذہرات معافی چاہئے پر ختم ہو گی، مگر مامت کی ایک وجہ قوب عکتی ہے جو ترک واجب کی نہیں، خلائق کی مامت ہے اور غلط کلگ جانے پر مذہرات ہونا اسکی علامت ہو گی۔ لئے خواہ گیسی ہی ہر سخت و کرخت ترک واجب والی یا نرم تر شیبی ترک سخت یا ترک عادت والی نام کی مامت، لہذا حب تک لہجہ و انشاٹ میں تشریف نہ ہو اسکے کریکو گناہ نہ کرنیں اون کو گی بھار، مامت اور فعل کے واجب قرار دینے کی دلیل نہ ہو گی، مگر مکرم اور اس کے قرب و سوار میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ نہ سخت و کرخت مامت کرتے ہیں، نہ ترک کرنے والوں کو گناہ قرار دیتے ہیں، اور جہاں سخت مامت اور ترک کو گناہ لوگوں کو گناہ قرار دیتے ہیں، وہاں یہ علامت اس کو عقیدہ میں درج کم سے کم عمل میں واجب قرار دینے کی دلیل ہو گی، اور وہ کام بدعت گلائی اور گن عنیم بن جائے گا، پھر ترک کرنا واجب ہو گا۔ لئے فرض کیجئے ذرا دیر کو مان لیجئے۔

لئے اصل میں جائز اور اچھا ہی رہے گا، اہل اگر وہاں لوگ واجب سمجھ کرنے والے بھی ہوں گے تو ان کی مشاہد اور ان کے کرنے سے جائز ہونے کی سند جو اس ملن سکنے کا گناہ ضرور ہو گا مگر بدعت نہیں کہا اسے گا حب کر نیت بالکل صاف ہو گی، ان کو بدعت کہنا شکیہ نہیں، لگا کہ پہنچیک ہے کہ من تشید بقوم فہرمنهم (ابداؤ) جو کسی سے مشاہد کرے گا ابھی میں سے ہو گا۔ لئے سختی کرنے والے،

لئے جو کچھ طواف زیارت کے بعد پھیطے پاؤں روشنے اور کچھ شریف کی طرف سے منہ نہ ہو رہے کو۔

کیا یہ رجعت سب کے حق میں بدعت ہو جائے گی، اور بعض اہل علم صرف جاہلوں کی بعض یا دیباں دیکھ کر جیسے موظع روایات پڑھنا گناہ وغیرہ وغیرہ جیسا کہ مجالسہ جہلہا میں دائیں ہوتی ہے، عموماً سب ہواں پر ایک حکم لگا دیتے ہیں، یہ بھی الفاظ کے خلاف ہے مثلاً بعض واعظین موظع روایات بیان کرتے ہیں، یا ان کے وعظ میں بوجہ اختلاف مذہب و عورتوں کے کوئی فتنہ ہو جاتا ہے، تو کیا تمام مجالس وعظ منوع ہو جاویں گی۔

لئے ان کے حق میں بھی ضروری و واجب نہیں سمجھتے، بدعت تو غیر ثواب کو ثواب یا غیر واجب کو واجب بناتے کو کہتے ہیں حب وہ ایسا نہیں کرتے تو بدعت نہیں ہو سمجھتی، باں جہاں ایسا ہونا ہو وہاں یہ کہنا شاید و سند جو اس ہونے کی وجہ سے گناہ قہرہ ہو گا بدعت پھر بھی نہ ہو گا مسجد بلکہ کعبہ شریف سے بُھانے کا گناہ دہر گا، لئے گو نام کے عالم کہلاتے ہوں مگر ایسے گناہ کے کام کریں گے تو جاہل ہیں ہیں صحیح اہل علم ان جاہلوں کو دیکھ کر ملکے عالم نام کے جاہلوں کی مسیدا دکی محبسوں میں ہوتا ہے۔

لئے مسیلاروں پر ۷

لئے الفاظ یہ ہے کہ جب وہ موظع (بِحَال) روایت اور گانہ بجا فر پر مشتمل نہیں تو گناہ میں ان کو ان کی برآوردن کیا جائے، آخنوں نے تحرام کام کر کر کے حشود میں التدبریہ دلیل کے ذکر بارک کو حرام سے آلوڑ کر کے ایسے ترہیں کہے جیسے کہ فی نجاست سے آلوڑ کر دالت سے توہین کرتا ہے، امام اعظم ابوحنیفہ رحم کی کتاب فتنہ اکبر کی شرح میں حضور کے ذکر کر باہوں سے آلوڑ کرنے کو کفر قرار دیا ہے، یہ ایسا نہیں کر دیجئے ہیں، یہ تداعی کی کراہت اور زمانہ و مہینات اور غیر اختیاری حالت کو اختیاری سے افضل اگر واجب نہ کریں گے تو بدعت اور بلاس کے کریں گے تو جہاں ایسا کر کے کرنے کا واجب ہے وہاں شاید اور سند جو اس بنے کا گناہ ہو گا جہاں ایسا کریں گے نہیں اور ان کی نیت پر بات سے خالی بے ملا الزمام گاہ دگاہ بلاندا عین ہے یہ خرم ہو گے لئے غایہ بہے کہ صرف وہی منور ہوں گے ذکر سب تو یہاں بھی حرم بدعہ مگر بات سے پاک گاہ گناہ الگ الگ اوقات میں بلاندا عین ہوں منہ نہ ہوں گی، گو عوام کے ان تقدیم کی وعایت نہ رکھنے سے گناہ کی شکل ہو گی تو شرعی تقام کے لئے منہ کرنا لازم ہو گا، کہ دعوی خود تم فرض ہے وہ واجب سنت صرف مستحب ہے اور وعظ فرض کفایہ ہے آئیت ولشکن منکم امنتے یہ عون اللہ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہر کمیز کی دعوت امر ملعون نہیں عن المثلہ کرے، لہذا اس کی اصل چیز کو بند نہیں کیا جاسکتا، یہ قادرہ فتنہ اخراج کو مسلم ہے کہ کام ضروری ہو تو باقی رکھ کر اصلاح کی جاتے، ضروری نہ ہو تو شرعی تقام کے لئے خدا یہوں کی بنا پر بند کیا جائے، فتنوں کی جماعت شب قدر شب برات کے اجتماعات کو فتنہ حنفی میں اسی قادرہ سے بند کیا ہے، لہذا وعظ جاری اور میثار پر جبکہ خدا یہوں سے خالی نہ ہو،

ع لے بہر کیکے تو گلکے را سوند !

رہایہ اعتقاد کے مجلس مولود میں حضور پیر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس اختقاد کو شرک و کفر کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ امر ممکن ہے عقلاءً نقلاءً بلکہ بعض مقامات پر اس کا درجہ بھی ہوا ہے۔ رہایہ مشہد کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کسی جگہ

لے ایک پتوں کی وجہ سے تم ایک پورے کبل کومت جادو۔ اس سے بھی وہ فخر کہا جادہ نکلتے ہے کہ کبل ضرور چیز ہے متن جلاعیل پتوں کو دور کر دو اور اگر کبل دوئی ناقابل استعمال ہے اور پتوں بہت یا کچھ ہوں تو جلاعیل الٰہ نہ ہے اگر کام فرض و اجنب سنت ہے تو باقی رکھ کر خرابی دور کر دوئی اس کام کو بھی اس وقت تک کئے منع کر دو جب تک ان پر عذر اور کتابہ ہوں سے سب جلد پاک نہ ہو جلتے۔

لے اعتقاد میں کسی بات کو یقینی کو کے جانا ہر ماہے اور یقینی بات صرف صاف آہت یا صاف حدیث متواتر سے ثابت ہر سمجھتی ہے یہ چونکہ بالکل ہی ثابت نہیں تو اس کو غلط عقیدہ کو کہ سخت ہیں مگر کفر و شرک نہیں کہ سخت۔ یقین کہ کفر تراللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ان کے قطعی و یقینی حکم احکام کا انکار کرنا ہے اور شرک ناجائز ہے کو غیر میں ثابت کرنا ہے جو کفر بھی ہے کیونکہ کا انکار ہے۔ اور یہاں دونوں میں سے کوئی بات نہیں تو یہ کہنا حد سے بڑھنا ہے یہ بے ثبوت دلیل فریہ ہے کفر و شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں وکی وہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ضرور کھلا شرک و کفر ہوگا۔ اس سے بچا ماسب پر فرض ہوگا اور مسلمانوں میں ایسا ہونا ہی لجد ہے۔

لے عقلاءً اس لئے کہ اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، لفڑا اس لئے کہ منع نہیں آیا اور شب مراجیہ میں دوسرے ابیانہ کا بیت المقدس میں پہنچنا آیا ہے۔

لکھے گوئیں کسی بات کے مکن ہونے سے اس کا واقع مونا ضروری نہیں چاہد سرچ کا لکھنے لکھنے سے ہو کر زمین پر گجانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اور قدرت کے بعد واقع مونا کسی معتبر دلیل سے ثابت ہوگا تو صحیح مانا ضروری ہے بات مکن توبے نہ ہو گا اچھے تکمیل گئے اب واقع مونا کسی معتبر دلیل سے ثابت ہوگا تو صحیح مانا ضروری ہے بات مکن نہ ہو تو قدرت ایک غلط خیال ہوتا ہے جس کا چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے لئے دلیل ہے کہ بعض بزرگوں نے کشف میں بعض جگہ تشریف لانا دیکھا ہے تو ایسے بزرگ کے حق میں قویہ بات فلسطین ہو گی۔ کوئی کشف کوئی شرعی دلیل نہیں نہ اس سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ یہ جائیداد عقیدہ کا حکم جو قطبی یقینی آیت یا حدیث متواتر سے بھی ثابت ہر سے۔ اور پھر دوسرے کے واسطے تو کشف بالکل ہی دلیل نہیں ہوتا، صرف ان صاحب کشید کے حق میں عقیدہ تھی، مگر بات بالکل ناطق نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کے حق میں غلط عقیدہ ہو سکتے ہے مگر کفر و شرک نہیں ہوگا۔ اور کشف سے جیسا کہ کار و نت افروز مونا مجاز سے کہتا ہے جو حقیقت کا آن نہیں

کیسے ایک وقت میں تشریف فرم اہو تے۔ یہ ضعیف شبه ہے آپ کے علم و روحانیت کی دعوت جو دلائل نقیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آگے یہ ایک اٹھنی اسی باتے علاوہ اسکے اللہ کی قدر تو قتل کلام نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور ریمانی جواب

لے حضور پر دھی والیام نماز کرف میں جنت دوزخ کا اکشاف اور حضور کا مرنہ سب سے زیادہ ہوتا ترآن وحدت سے ثابت ہیں اور اکشاف سے بھی پہت بزرگوں کو منکشف ہوتے ہیں۔ کوئی کشف کا درجہ ان کے قریب کا بھی نہیں، نہ پر ایک کو ہوتا ہے۔

لے اس لئے ایسا ہونا ممکن ہے اگر کسی معتبر دلیل سے ثابت ہو تا یا اب کشف سے صرف کسی اہل کشف کھلتے ظاہر ہو تو اس کے لئے صحیح ہو سکتا ہے اگر کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہوگا اور ممکن ہوتے ہے دائیں ہوتا فروری میں، اسلئے ثبوت دلیل سے قویہ ہوگا۔ اہل کشف کے لئے کشف سے ممکن ہے۔ مگر نہ تو اہل کشف کو ہر وقت کشف ہو دیں اور کتابہ ہوں سے سب جلد پاک نہ ہو جلتے۔

لے اعتقاد میں کسی بات کو یقینی کو کے جانا ہر ماہے اور یقینی بات صرف صاف آہت یا صاف حدیث متواتر سے ثابت ہر سمجھتی ہے یہ چونکہ بالکل ہی ثابت نہیں تو اس کو غلط عقیدہ کو کہ سخت ہیں مگر کفر و شرک نہیں کہ سخت۔ یقین کہ کفر تراللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ان کے قطعی و یقینی حکم احکام کا انکار کرنا ہے اور شرک ناجائز ہے کو غیر میں ثابت کرنا ہے جو کفر بھی ہے کیونکہ کا انکار ہے۔ اور یہاں دونوں میں سے کوئی بات نہیں تو یہ کہنا حد سے کھلا شرک و کفر ہوگا۔ اس سے بچا ماسب پر فرض ہوگا اور مسلمانوں میں ایسا ہونا ہی لجد ہے۔

لے عقلاءً اس لئے کہ اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، لفڑا اس لئے کہ منع نہیں آیا اور شب مراجیہ میں دوسرے ابیانہ کا بیت المقدس میں پہنچنا آیا ہے۔

لکھے گوئیں کسی بات کے مکن ہونے سے اس کا واقع مونا ضروری نہیں چاہد سرچ کا لکھنے لکھنے سے ہو کر زمین پر گجانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اور قدرت کے بعد واقع مونا دلیل کے بغیر نہیں مانا جاسکتا۔ کبھی پہنچا علم کا پہنچا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا علمی طور سے ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس سے علم غیر بُوکھ عطا فی ہو۔ محیط کل ہوتا لازم آتے گا جو غیراللہ کے لئے مانا کفر ہوتا ہے۔

لکھے پر دیے۔ اور اس وقت ہر جگہ حضور کے سامنے ہو جائے۔ گوئی دو نت افروز ہوتا میں کشف سو جانہ ہے مگر ممکن ہے اور واقع بھی ہے یا نہیں۔ اس کا داد دلیل پر ہوگا۔ اگرچہ ترآن وحدت سے اس پر کوئی دلیل نہیں، مگر اہل کشف کہ اگر اس کا کشف ہو جائے تو اسکے حق میں توجیہ اور جس جگہ کیلئے کشف ہوگا واقع ثابت ہو گا چاہے دوسرے پر دلیل نہیں لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ریمانی جواب نے ہو گئے حدیث ہے۔

لکھے پر دیے۔ اور اس وقت ہر جگہ حضور کے سامنے ہو جائے۔ گوئی دو نت افروز ہوتا میں کشف سو جانہ ہے مگر ممکن ہے اور واقع بھی ہے یا نہیں۔ اس کا داد دلیل پر ہوگا۔ اگرچہ ترآن وحدت سے اس پر کوئی دلیل نہیں، مگر اہل کشف کہ اگر اس کا کشف ہو جائے تو اسکے حق میں توجیہ اور جس جگہ کیلئے کشف ہوگا واقع ثابت ہو گا چاہے دوسرے پر دلیل نہیں لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ریمانی جواب نے ہو گئے حدیث ہے۔

متفققی ذات کلبے، اور جو بالام خداوندی ہے۔ وہ ذاتی نہیں بالسبب ہے  
وہ مخلوق کے سخن میں مکن ہے بلکہ واقع ہے۔ اور امر ممکن کا اعتقاد شرک و کفر کو یک  
ہو سکتے ہے۔ البتہ ہر ممکن کے لئے و قرع ضروری نہیں۔ ایسا اعتقاد کرنا محتاج دلیل  
ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جائے مثلاً خود کشف ہو جاوے یا کوئی صاحب کشف نہ بردیے

لئے خود بخوبی رفتار کا تلقائی اپنے کام پر کوئی کارہیا نہ ہے۔

۲۔ جو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہو۔

لئے خود بخود بلاکسی کے دیتے نہیں۔

لگھ ذریعہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطا فرمایا ہے۔ اور سب سے زائد تمام اولین و آخرین کے علوم دیتے ہیں جیسے حدیث میں ملے گرائم آئی سے دو بھی بعض ہے۔

۵۔ کہ ایسا ہر نے میں کوئی عقلی محال لازم نہیں ہے تا نہ معین اشیاء کا علم عطا ہوئے میں کوئی نقلی خلافت بکر ایسا ہونا داتھ ہے، کہ اشیاء علیہم السلام پر وحی والہام اور بزرگوں کو کشف والہام بعض کا ہوتا ہے۔ ہاں اذل سے اب تک کل کاظم محیط عطا ہوتا یہ قرآن و حدیث سے نسلط ثابت ہے۔ اس کا اعتقاد غلط ہے۔ اگر کہیں سے معتبر طریقہ سے خلط فہمی نہ ہوتی ہوگی تو یہ بھی شرک ہے۔ جیسے معرفت کو محیط کل قرار دیکھ عطا تی مان کر غیر اللہی شما بت کرنا شرک ہے۔ تو اس معین کا عطا تی علم با نابہے دلیل ہے۔ لیکن شرک نہیں کفر نہیں۔

۴۔ اور اعتقاد کرنے کے لئے تطہی و یقینی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ سخت گناہ ہوتا ہے اور تطہی و یقینی دلیل صرف اسیت یا اسی متوافق حدیث (جس کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اتنے رہے ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر جیسے ہونے کو محال قرار دے) کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تمام عقائد ایسی ہی دلیلوں سے نایاب ہیں۔ اگر کسی کو ایسی دلیل بجاوے تو اعتقاد کر سکتا ہے۔ ایسی دلیل نہ مل سکے تو یہ اعتقاد شدید گناہ ہو جاتے گا۔

لکھ گو گشت شرعی احکام کی دلیل نہیں شرعاً احکام کی صرف یہ دلیلیں ہیں قرآن، حدیث، اجہاد۔ قیاس اور کشف میں تو شبیبات رہتے ہیں وہ دلیل شرعاً بھی نہیں، اور عقیدہ کے لئے ترقیتی و یقینی دلیل کی نہیں: درست ہتی، مگر نیز کشف اگر قدر اتنی سے صحیح علوم پر جانتے تو ایک خیال ثابت ہو گا جو خود اس کے باوجود یہی خلط نہیں، گوچہتہ دلیل عقیدہ کی بھی نہیں۔ اور تم دوسروں کے لئے ذرا بھی دلیل ہے؟

اُنھے جائیں۔ بیرحال بہ طرح یہ امر ممکن ہے اور اس سے آپ کی نسبت اعتقادِ غم غیب لازم نہیں آتا، جو کہ خصائصِ ذاتِ حق سے ہے کیونکہ علم غم غیب رہ ہے۔ جو

لهم اس کے مکن ہر نئے میں تو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ کھنے والوں کو نشہ ہی نہیں ہو سکتا۔ شہر فدا قیم  
ہونے میں بتا بے اسی کے نئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے دلیل شرعی ہے کہ کشف اہل کشف کے لئے  
جیان کا ہو جائے ڈال کو دلیل ہو سکتا ہے تو سب کے نئے انکار نہ کرو یا چاہیے جو کہ کافی نہ ہو اس کیستے انکار صحیح ہے  
لهم اگر ہر جگہ کا وجد و عملی وجود سے قرار دیا جائے تو کوئی عتنی اشکال نہ رہے گا۔ اب شہر نقیلی دلیل  
سے رد جایز کہ ہر مرد گہر کا علم ہذا عالم غیر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیر جو اللہ کی صفت  
ہے ثابت ماننی پڑتے گی۔ یہ شرک ہو جاتے گا۔ جواب فرمایا کہ شرک لازم نہ آتے گا، کیونکہ جو علم غیر جو اللہ  
کے ساتھ خاص ہے وہ ہے جو ذات ہو خود بخود بلا کسی کے دیتے حاصل ہو یہ حضور کے لئے ثابت ہیں۔ ہاں  
عطائی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہو گا۔ وہ غیر کیلئے ممکن بلکہ واقع ہے وحی والہام ہی تو ہے کیونکہ غیر مصلحتی  
پختے نا ہے۔ تو وہ علم غیر ہے جو دوسروں سے ناتب ہو وحی والہام ایسے ہی ہیں۔ اور اس میں  
کسی مسلمان کو تردید نہیں ہو سکتا کہ علم غیر ذاتی ماثنا شرک ہے اور اس میں علم عطاوتی بعض چیزوں کا اختیار  
عقیدہ ہے کہ وحی والہام صحیح ہے۔ اب رہایہ سوال کہ تمام چیزوں تاہم حکیم کا عطاوتی علم ہے۔  
یا نہیں۔ اذل سے اب تک کا عطاوتی علم غیر ذاتی بھی شرک ہے یا نہیں تو فہمانتے احناف نے اس کو صحیح  
کفر و شرک قرار دیا ہے بلکہ ہر صفت میں یہ درونی درجہ ذاتی اور محییہ کل کا صحیح اللہ تعالیٰ کے لئے  
خاص قرار دیا گئے غیر کے لئے ثابت کرنا غریب تینا ہے اور آیت ولا یحيطون بشیعی من علیہ السلام

بہائیوں کے علم سے ذرا اسی شے کا جسی احاطہ نہیں کر سکتے تو اسے اس کے جزو ہے چاہیں) اور دا اللہ  
بکل شیئی محتطاً (اللہ تعالیٰ یہی پڑھے کا احاطہ رکھتے ہیں) اگر بغیر کسی ترمی معتبر شیئ کے یہ فزار دیا گی تو  
یہ بھی شرک ہوگا۔ اور قسم سے انکے میں حضرت عالیہ کی براعت نہ معلوم ہونگی اور قیامت میں بھی یہ فرمان  
ہے کہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے بعد اخرون نے کیا کیا نہیں باقیں دین میں بنالیں۔ اور جیسے کہ کتنی جگہ قرآن شرط  
میں لاتعلیهم (آپ ان کو نہیں جانتے) وغیرہ ہے اس لئے وحی والہام سے یہ معلوم ماننا  
صحیح و رنگ مشک ک ہوگا۔ اور درود کی حدث سے علوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہر فرد درود و مسلم بہائیوں کے ہے ہیں۔

تو ادر کوئی چیز نہیں پہنچاتے۔ نہ خود علم ہوتا ہے۔ عطا تی بھی نہیں۔ ورنہ پہنچانا کیوں پڑتا۔ تو عطا تی محیط کل بھی شرک ہے۔ بال پہنچانا ساننا بنے اصل ہونے سے گناہ تو ہرگا شرک نہ ہوگا۔ حجاب افہدا کشف ہے علم غیر نہیں۔ بعض کامے کل کا نہیں۔

۳۔ الشرعاً لائے کی ذات کی خصوصیتوں میں سے

تو اعتقاد جائز ہے ورنہ بے دلیل ایک غلط خیال ہے۔ غلط سے رجوع کرنا اُس کو فرد ہے، مگر شرکِ دکھنے کی طرح نہیں ہو سکتا،

پس تحقیق مختصر اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جو مذکور ہوئی۔ اور مشرب قہر کا یہ ہے کہ مخالف مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال اپنے گھر پر منعقد کرتا ہوں اور تیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔ رہا عملدر آمد جو اس مسئلہ میں رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہرگاہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور ہر فرقی کے

اممِ عین حق سے ایک خیال ہو سکتا ہے جو شرعی اعتقاد نہیں ہو سکتا کہ اول تواند کشف اپنے عقیدہ کے لئے بھی صحیح دلیل نہیں کو وہ شرعی دلیل ہی نہیں اور عقیدہ کے لئے تو بالکل بھی نہیں۔ مصکر کوئی کشف دوسرے کے لئے دلیل نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک خیال فاتح کرنا ہو سکتا ہے وہ بھی جب کہ شرعی دلائل سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو، ورنہ کشف نامعتبر ہونے کی وجہ سے ان دلائل سے رو جائے گا۔

۳۰۷ اور اس کو عقیدہ بنانا اور سخت غلطی ہے اس کو چھوڑنا فرض ہو گا۔

۳۰۸ غلط اور بے دلیل خیال کو عقیدہ فسرا دینا لگا تو یہ مگر اس سے جبکہ کسی قضیٰ لیقینی دلیل نہیں ہے اس کا انکار نہ ہو گا۔ کفر نہ بننے گا۔

۳۰۹ کیونکہ مکمل مکمل دلیل رہنے والے کسی غیر واجب کو واجب نہیں قرار دیتے۔ کوئی گھر کی بات اس کے ساتھ کر کے ذکر کی تو ہیں نہیں کرتے، کسی خاص مشکل و ہمیت تاریخ ماه کو حفظ و ری توكیا بنا تے پابندی بھی نہیں کرتے، کوئی بے اصل روایت نہیں بیان کرتے۔ تداعی یعنی بلا بلا کر جمع کرنا۔ بھی نہیں کرتے۔ وہاں کا ذکر رسول غیر اختیاری ادعا کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اختیار ہی اوصاف عبادات انتظامیت اخلاقی معاملات پیارتِ جہاد تبلیغ احکام بود و باش اصلاح و تزکیہ سب امور پر مشتمل ہوئے وہ مسیلاً مرد جو نہیں ذکر رسول پاک ہوتا ہے۔ ذریعہ برکات ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے مگر پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

۳۱۰ اس کو کارثہ و قاب بھی نہیں قرار دیتا افرادی تو درکار اہر فر اپنی قوت کشی یا تحریب سے تعزیر خاص پر اس میں دینی و فرشتے لطف ولذت پاتا ہوں۔ اور اس طرح کو وہ مردی جگہ بھی کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ حاشیہ میں جو عرض ہے وہی ان کا حقیقی منشا ہے۔

۳۱۱ جب کہ

پاس دلائل شرعی بھی ہیں۔ گوت و ضعف کا فرق ہو جیسا اکثر مسائل اختلاف فرائیہ فرائیہ میں ہوا کرتا ہے۔ پس خواص کو تو یہ چاہئے کہ جو انکو تحقیق ہوا ہوا اس پر عمل رکھیں۔ اور دوسرے فرقی کے ساتھ

لئے مگر شرعی دلیل وہ ہے جو قرآن و حدیث اجماع و فقة سے فہمئے امت کی تحقیق کے موافق ہو خصوصاً فقیہ احادیث کی تحقیق کے جو ان سے ہوگی۔ وہ دلیل ہے، ورنہ دلیل نہیں جعل ہے۔ پھر اگر دونوں شرعی دلائل سے باقاعدہ لی گئی ہوں تو گوت و ضعف کو دیکھنا ہو گا۔ یعنی لوگ بات اپنی بھتے ہیں، اور اس پر گھیر گھار کے کسی آیت یا حدیث کو چھپا کر دیتے ہیں اس سے ایک عالمی آدمی یہ سمجھ پڑھتا ہے۔ کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی۔ گو قرآن و حدیث سے اس کو دوسرکا بھی واسطہ نہ ہو گا ہو غلط ہے غلط مفہوم تراش کے اس سے غلط حکم سمجھ دیا اور سمجھا دیا جاتا ہے۔ اور ہر شخص یہی کرنے لگا تو عام لوگ چکر میں پڑ گئے۔ اور مہت سی خطہ ناک بیٹے اصل باتوں کو ان کے بھتے سے دین سمجھنے لگے۔ اس لئے اصل دینی و اسلامی صیحہ بات معلوم کرنے کے لئے آپ ہزار سال تحقیقات کی طرف رجوع کریں۔ اور ہر منہ کو فقه حنفی اور عقائد کی کتنا بون کی ان صیحہ تحقیقات کے مقابلہ ہونا معلوم کریں۔ جس کو ہزار سال سے سب مانتے ہیں اور تنقیحات پر ہر کروڑ ہی پاک صاف مفہومات ہیں، اور اساف کہہ دیجئے کہ معلوم نہیں آپ نے ثابت شد، حکم کا انکار نہ ہو گا۔ کفر نہ بننے گا۔

لئے جو ضروری عقیدہ سے تعلق نہ رکھیں۔ فصرف عمل و معاملات سے متعلق ہوں کبھی نکو عقیدوں میں اختلاف تو اصولی اختلاف ہے۔ اور وہ اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ راجح مرجوح کا نہیں۔

۳۱۱ اہل علم و تقویٰ بزرگوں کو چاہئے کہ پوری تحقیقات کے بعد حق پر عمل کریں۔ دیسے ہی کوئی کام نہ کریں ॥

بغض و کینہ نہ رکھیں نہ نفرت و تحقیر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں نہ تفریق و تفسیل کریں بلکہ اس اختلاف کی مثل اخلاق حنفی ش فتحی کے سمجھیں اور باہم ملاقات و رکابت و سلام دونوں نعمت کے رسوم جاری رکھیں۔ اور تردید و مباحثہ سے خصوصاً بازاریوں کے ہذیانات سے کہ منصب اپل علم کے خلاف ہے پرہیز رکھیں۔ بلکہ ایسے

اے جب تک نیک گان کی گنجائش مل سکے غیر دین کو دین غیر واجب کو فرض و راجب بنالینا زعیدہ بین ثابت ہونے عمل میں ظُنُنُ المرءین حکایا (مرموں سے نیک گان دکھا کر دی) حدیث سے ایسا کرنہا ہے۔ ہاں اگر دلائل سے غیر دین کو دین غیر واجب کو واجب بنانا ثابت ہو جائے تو تقریت ضروری ہے بغض نے اللہ سنت اور اپل بدعت کو مگر ابھی سے بچاناد اجنب بنت تاک حدیث مدن و قربدھیا فقد هدم الاسلام (جس نے بدعت والے کی تو قرود قتلیم کی تو اس نے اسلام کو رہا دیا ہے اسلام کو مہدم کرنے والے نہیں جائیں۔ اس لئے بے تحقیق ایسا ذکر کریں کہ حیقر یا تو قیر کریں۔

۳۔ فاست اور گراءہ زار دینا بغیر مکمل تحقیق کے نہ کریں اما ذکر خوبیت نہ بن جائے۔ ہاں تحقیق پر دین کی حدد کی حفاظت لازم ہے۔

۴۔ یعنی اس کے مشاہد و رسم و یاد تواریخ احادیث سے قرآنی آیات اجماع و تیاس سے ہی دونوں کی صحیح طریقہ کی دلیلیں ہیں زیادہ تر راجح دفعہ دوست اخلاق سے اور سب کا حدیث سے ہی اتدال ہے وہ بھیندیں اور یہاں حنفی مقلد ہو کر حدیث کے خلاف دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا یا نئی صفت قرار دینا ہے وہ بہت فرق ہے۔ مگر زمانہ کی زماں کا تناقض ہے کہ بدون ولی محبت کے میں جوں رکھیں ہے مزدور اخلاق کو ہر ان دین بھیے حنفی ش فتحی میں بے ضرورت اخلاق کو ہمیں اچھا لاجانا اور یہ بھی اس وقت ہے کہ ان بے اصل بالوں کو عقیدہ یا عمل میں واجب نہ فرار دیں اور دلائل میں مذکور کی شایستہ اور سند حوازن بننا نہ لازم آئے۔ اس وقت حنفی شافعی اخلاق کے مانند ہو گا کہ ان کی شایستہ اور سند حوازن نہ لازم آئے۔ اس وقت حنفی شافعی اخلاق کے مانند ہو گا کہ اپامذہب راجح و قری دوسرے کا کرو دو ہے۔ احرار ازو بدعت، داتباع سنت تو ہی ہے۔ وہ کلی بدعت تگر ابھی اور اسلام کو مہدم کرنے والی چیز ہے اس کی مگر ابھی ثابت کرنے والی مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرنے والی راجب ہو گا۔

۵۔ طریقہ حسب مزدورت نہ کر دی محبت۔

۶۔ بلا شدید ضرورت کے تزدید اور بحث و مباحثہ نہ ہو۔

۷۔ بے عقل کی باتیں اور گندے لفظ جو بازاری لوں استغص کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ دو من لغت اور غش بات کرنے والا نہیں ہوتا۔

مسئلہ میں نہ فتویٰ لکھیں نہ ہر دستخط کریں کہ فضول ہے۔ اور ایک وسرے کی رعایت رکھے۔ مثلاً اگر مانع قیام عامل قیام کی محفل میں شرکیک ہو جاوے تو ہمتر ہو کہ اس محفل میں قیام نہ کریں۔ بشرطیکہ کسی فتنہ کا پرپاہونا مختتم نہ ہو اور جو قیام ہو تو مانع قیام بھی اس وقت قیام میں شرکیک ہو جاوے اور عوام نے جو غلو اور زیادتیاں کر لی ہیں اس کو زمیٹ سے منع کریں۔ اور یہ منع ان لوگوں کا زیادہ مشید ہو گا جو خود مولد و قیام میں شرکیک ہوتے ہیں، اور جو مانع اصل کے ہیں۔ ان کو سکوت مناسب ہے۔ ایسے امور میں مخاطبہ بھی نہ کریں۔ اور جہاں ان امور کی عادت ہو، وہاں مخالفت نہ کریں۔ —  
جہاں عادت نہ ہو وہاں ایجاد نہ کریں — غرض فتنہ سے بچیں —

۸۔ جب تک کسی مباح یا مستحب کو فرض واجب نہ عقیدہ میں قرار دے رکھا ہونہ مسلسل میں اور نہ وہاں ایسے کرنے کا ماحول ہو کہ ان کی مشاہد اور سند حوازن بنے کا خطرہ ہو تو فتنی ذخیرہ لکھیں نہ کسی کے لئے ہوتے پر تصدیق کرنے میں ہر یاد ساخت کریں کہ دخول کا کام ہے کہ پھر ایسے میں نہ وہ بدعت ہو گا نہ گا نہ دوسرا مرض کے لوگ فتویٰ لکھیں کہ حدود سے نکل جائیں گے۔  
۹۔ بشرطیکہ حرام کے گمراہ ہوتے کا خطرہ نہ ہو کہ دوں کے فعل کو سند بنائ کر حد بدعت تک پہنچ جائیں اسے اور اگر فتنہ کا احتمال ہو تو یہ دلیل اس کی ہو گی کہ وہ اس بے اصل کام کو ثواب بھی نہیں واجب سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بدعت ہو گا اور بشرطیکہ گاہ بگار بنے گا۔ اور بدعت کی شرکت اور دین میں مذاہدہ کا بھرم ہو گا لئے جب کہ اس کو بگان غالب معلوم ہو کہ یہ لوگ اس کو فردی نہیں سمجھنے کیجی کرتے ہیں کبھی نہیں اور ایک شرکیک نہ ہونے سے کسی اپل دل کو تبین (دل کی مشدید گھشن) ہو کر ہان کا خطرہ پیدا کر دے گا اور یہ اس کے احساس کرنے کا ابل بھی ہو تو اس کی جان بچانے کے لئے یہ کرنا لگنیا لش رکھتا ہے کہ کرے۔  
۱۰۔ کہ اس طرح کچھ سے مانتے کی امیہ ہوتی ہے۔ اول یونہی کہنا چاہئے، نہ مانیں تو دوسرا کو مشش کریں میں کہہ میں اور خرابیاں بنائیں، تاکہ حجج کرنا نہ ہو،  
کہ حجج کرنا نہ ہو۔ مرف مسئلہ باتیں اور پوچھنے پر نہ بتانے سے تو قیامت میں آگ کا کام لگانے کا عذاب ہے۔ گزرم لمحہ اور خیر خواہی سے بتانے اسی مفہوم ہے۔ حجج کے سے فائزہ نہیں ہوتا۔

پنجم حظیم اسکی دلیل کافی ہے اور مجوزیں مانعین کے منع کی تاویل کریں کہ یا تو ان کو مجبی

لئے حظیم کعبہ شریف کا شماںی جات کا کچھ حصہ ہے جحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہیت ہے قوم کے پاس خرچ کم تھا یہ حصہ کوہ مشریق کا باہر بھجوڑا ہوا اگر لوگ کفر کے قریب نہ رہنے کے لیے نئے سلطان نہ ہوتے تو میں منہدم کو کے نئی عمارت بنوتا اور اس کشاں کر دیتا۔ لیکن لوگوں کے اسلام سے پھر جانے کا خدشہ ہے اس کی وجہ کو منہدم کرنے گے اس نئے ارتادکی وجہ سے حضور نے قدم عارث توڑ کر اسکے داخل ہنس کیا۔ پھر حضرت عبد اللہ بن زیر نے قمیر کے وقت داخل کردیا تھا جل جس نے پھر باہر کر دیا تھا پھر ظام دین نے کعبہ کو کھیل بلند کے خدشہ سے منع کر دیا۔ اور اب تک زدہ باہر سے اُحسن نے فتنہ سے بچنے کے لئے ایک اچھا کام روک دیا تھا۔ تو دوسرا بھی نقصہ کے وقت مستحسن پیغمبر کو پھر ہدوں تو اس بیں گنجائش ملتی ہے جائز کہنے والے نہ گریں اور ناجائز کہنے والے کبھی نقصہ سے بچنے کے لئے کریں اُس کی گنجائش ملتی ہے گوہاں فتنہ ہنا ہے سخت تھا کہ اسلام سے بہت کردار میں جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نام سب بلکہ اپنے گان میں غلط کام کو فسوب کر کے اپنی عاقبتے رہا و کریں کا تھا۔ یہاں ایسا نہیں ہے اور حظیم کو اذ عمارت میں داخل کرنا کوئی ہزوڑی نہ تھا مرف طواف میں داخل کرنا کافی تھا اور یہاں اگر اس کو فرض یا واجب تو اور دیکر کرنا ہو تو بعثت ہے اس کی شرکت حرام ہے اور نہ کرنے میں کوئی خروج ہنیں کہ فرض ہے نہ واجب اگر نہ کیا جائے تو فتنہ سے بچا وہے اسلئے نہ کرنا چاہئے اور اگر کسی اہل دل کو تباہ ہو کر جان نکل جانے کا خطرہ مہر و جان بچانا اسلام کی فرمذبادی کی فتنہ سے بچنے کے لئے عارضی شرکت اگر صاحب اس کی ہو تو سختا لش رکھتی ہے ورنہ بعثت و حرام کی گنجائش نہ ہوگی۔

لئے جائز کہنے والوں کے منع کی۔

لئے کہ میلان در طرح سے ناجائز ہے کیونکہ نہ اعیز رہا جا کر جمع کرنا، جو فرض واجب یا شرعاً کیلئے ہے مجبی میں کر دے ہے۔ نفل کی جاہت اس طرح سے کر دے ہوئی ہوتی ہے۔ پھر حضور کا ذکر حفیقی جو آپ کے احکامات ارشاد انعام و عبارات احوال و صفات اور خصوصاً فرض منصبی تبلیغ کو جس پر ارشاد ہے یا ایہا الرسول بلطف ما انزل اللہ کی خان لم تفعل فہا بالعته رسالتہ (لے اللہ کے شعل ان تمام کو بخواہی کیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اپسام کیا تو رسول ہوتے کا کام نہ کیا) اور یہ سب حضور کے اختیاری رہے ہے فوائد ہیں ان پر زکر خواری کو جو حضور کے اختیار سے باہر کے فعل ہیں حضور کے نہیں مخصوصات مبارک سے تعلق و مکہنے کے وجہ سے مجازی ذکر رسول کا بیان چیازی کو حفیقی سے انفل بننا ہے مکروہ ہے۔ مجازی کو اصل حقیقی کو تابع بنانا بھی براہے پھر دون تاریخ جسکو شریعت نے مقرر ہیں کیا بلکہ ہر وقت اس کا ہونا بھی لسکیا ہے۔ ایسے مقرر کرنا کہ خداونکے کو خدا سمجھنا بکم گی و قرار دینا وین میں ترمیم یا اصلاح کر کے دین کی قریب کرنے یعنی جب حضور نے ان توں کو خزوڑی نہیں کی تو نہ کرنا جائز قرار دی تو حضور کے جائز کرنا جائز کہنا خطرہ ہے۔ یا تھیں کی تہمت حضور پر لگانا ہے ان سکے چھوڑو ٹراہی ٹراہی سے اور پھر اس میں گانہ بجا نا عور توں بے ریش روکوں کا پڑھنا گانہ بجا نا سب حرام سے آ دوہ کر کے کرنا تو ہیں ذکر ہے جس کو بڑے عالموں نے کفر بھی قرار دیا ہے۔

تحقیق ہوا ہو گا۔ یا انتظاماً منع کرتے ہوں گے کہ بعض موقع پر اصل عمل سے منع کریں  
تب غلوت سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت میں یہ تدبیر اکثر غیر مفید ہوتی ہے۔ اور  
جز مانع ہیں وہ مجوزین کی بخوبی کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کو تحقیق میں ہوا  
ہے یا غلبہ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں۔ اور حسن نظر بالمسلمین کی وجہ سے  
لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ اور عوام کو چاہئے کہ جس عالم کو منتظر ہے

لئے قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر کام فرض واجب سنت ہو اور اس میں شامل کردی جائے براہی تو  
اصل فعل کو ترک نہ کریں گے براہی کو روکیں گے اور اگر کام مباح یا محبوب ہو تو اس وقت تک کے لئے  
روکا جائے گا۔ جبکہ براہی ذہنی سیاست نہ جائے اس لئے اصل میلا دیکی مجلس کو ہی روکنا مگر  
کہ یہ نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ محبوب رکوڑ کر رسول عنیم محببات میں ہے مگر مجلس نہیں ذکر ہو وقت  
ہونا بہتر ہے۔ مجلس پر موقوف کرنے سے تو کمی ہو جاتی ہے۔

لئے حد سے نکل جانے سے کہ غیر واجب کو واجب غیر ثواب کو ثواب قرار دینے سے بچیں۔  
لئے کیونکہ لوگ فرمی ہو گئے ہیں وہ اور ضریب کام حرام کرنے گئے ہیں درگذر بہتر ہے اگر  
وہ اس کو عام نہ کریں ورنہ طلب حق داؤں کے لئے صیحہ بات ہی کہنی چاہئے۔

لئے جب کہ قید دن کو جو فرما گی معتبر نہیں ان کا غصیدہ یا عمل میں واجب بن لینا کسی دلیل سے ثابت  
نہ ہو اور ایسا ماحول بھی نہ ہو جس میں لوگ واجب قرار دیکھ کرتے ہوں پھر یہ ان کی مشاہدہ اور آنکے  
لئے جائز کی سند نہ بنتے ہوں۔ یہ تاویل کو میں کہ خلاط طریقہ سے میں تحقیق ہو گیا ہو گا کہ نہایتی اور ذکر غیر  
اختیاری کی ترجیح مکروہ نہیں۔

لئے غبہ کا حامل اتنا غالب ہو گی ہو کہ اخراج کا ایوشن نہیں رہا۔ کچھ محدود ہر گئے ہیں۔ مگر جن پر حال غالب  
نہ ہو سکے یا اس کا احسان ہر سکھ وہاں روک لو گے دینی فریضہ ہے۔

لئے مسلموں کے ساتھ خوش گئی ہے کہ وہ کسی غیر واجب کو واجب نہ قرار دیں گے اور وہ بھی حال  
سے منسوب ہوں گے۔ اگر متلقی ہوں اور محبت کا حال غالب ہو یا غیر متفقی تو اتنا یاد ہو کہ باز ہی ہو گا۔

لئے میں دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر کہ مسلمان ناجی گروہ کی علاست  
کو خشنود نے فرمایا تھا۔ اور انزوں میں جو تقریب نو تھے ہیں میری ایسے لئے تھنہ ہوں گے یہ سب دندن ہیں ہوں گے۔  
سوائے ایک کے عرض کیا گیا کون فرمایا جو اس راہ پر ہو جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں؟ جو قرآن پھر حضور صاحب  
تابعین کے تابع ہوں اور خواہشون کو دین پڑھا کر تھے ہو اور جو کی اہل نیرون نمازوں میں ہو اسکو دین کہنا بمعنی ہو گا۔

اگر سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں اور دوسرے فریق کے لوگوں سے نظر پر نہ کریں۔  
تحقیق دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گت خی کرنا چھوٹا منہ بڑی بات کا مسئلہ تھا  
ہے۔ غیریت وحدت سے اعمال حسنة ضائع ہوتے ہیں۔ ان امور سے پرہیز کریں اور  
تعصیب و عداوت سے بچیں اور ایسے مناسیب کی کتابیں اور رسائلے مطالعہ نہ کیا کریں  
کریں کام علماء کا ہے۔ عوام کو علمائے بدگانی اور مسائل میں شہید پیدا ہوتا ہے۔ اور اس  
مسئلہ میں بحق تحقیق ہے اور عمل درآمد تحریر کیا گیا ہے کچھ اس مسئلہ کے ہی ساتھ مخصوص

لئے ان کے جیسے ہیں کہ جیسے عید الفطر و عید الاضحیٰ کے بعد مصالحہ کرنا اور کچھ ملائے فرنی ہے نہ واجب  
نہ سنت نہ مستحب اس کو مفروری ثواب یا واجب جیسے عقیدہ باعمل میں کر کے کونا بدعت اور گناہ ہو گا،  
اور جہاں لوگ ثواب یا واجب کر کے کرتے ہوں وہاں ان کی مشایحت اور سند جواز بننے کا گناہ ہو گا۔ ایسے ہی  
و عنده کے بعد یا بغرو و عصر یا پانچوں نمازوں کے بعد امام سے مصالحہ کرنا یا پانچوں نمازوں کے بعد بار بار بلند آواز  
سے کلام شریف پڑھنا، بالآخر پاؤں پومنا نہ فرعی نہ واجب نہ سنت نہ مستحب، کو مصالحہ سنت ہے۔  
مگر وہ سے آنے والے یا دیرے سے آنے والے سے نہ کہ نمازوں کے بعد۔ اب ان کو ثواب یا واجب کی طرح  
مفروری کر کے کو زاد بدعت ہو جائے گا۔ اور خالص تہیت سے بھی جہاں ان کا رواج واجب کی طرح کا ہو گا۔  
وہاں ان کی مشایحت اور سند جواز بننے کا گناہ ہو گا۔ جہاں رواج نہ ہو وہاں بغیر فخر و عرضی سمجھے  
کسی کے بیکاری کو شمشش تو اور زیادہ ہرام ہے۔ ارزیکوں اور عالمان دین کی غیبت اور سخت بے  
سلکہ دینیوں کے صحیح و غلط قوی و نکر درہونے کو وہی پر کر سکتے ہیں۔ جیسے سونے چادری کے گھر سے کھجور  
بننے کو شماری مسلم کر سکتے ہیں۔ مکان کے مطبخ مکار درہنیکو اپنی سر صحت و مرفن کو حکیم داکری معلوم  
کر سکتے ہیں۔ وہ سرے آدمی کتاب سے علاج یا مکان کی مشبوطی یا سولے چاندی کا کھرا مونا نہیں معلوم کر سکتے  
ہیں کہ غلط اور غلط کو صحیح فرار دے سکتے ہیں۔ ظاہری چک سے دھوکہ کا لیتے ہیں میان عجی عبادت کی عدگی دھوکہ بخاقاب ہے  
لئے خود دیکھنے سے میہوتا ہے۔ پاہ بست بٹا حق و تحقیق والا عالم ہو تو اس کی تحریر و تقریر دیکھا سنا  
درست ہے اس سے حق بات ہی معلوم ہو گی۔

لئے اس میعاد کے مسئلہ میں بحق تحقیق اور عمل کا طریقہ لکھا ہے۔ کہ جو بات فرض دو اجنبی نہیں اس کو فرعی و  
راجیب کی طرح کرنا بدعت و حرام بوجاتا ہے۔ اور صحیح نیت سے بھی جہاں ایسا کرنیوالے ہوں گے وہاں انکی  
مشایحت اور زینکہ درستون کو دل کا حال مسلم نہ ہو گا۔ کرتے دیکھ کر وہ جائز سمجھ لیں گے وہاں سند جواز  
بننے کا گناہ ہو گا۔ جہاں اس کرنے والے نہ ہوں۔ وہاں اگر کبھی کسی نے ہر مکر وہ رنجا جائز سے  
پچ کر کر لیا تو حرج نہیں ہو گا۔ یہ بات سب مکوں میں کام آئے گی۔

اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔ فاحفظہ تتفق اشاء اللہ تعالیٰ،

لہ سب کی بیان اسی قاعدہ پر ہے جو شریعہ میں حدیث نے کہ بیان کیا گیا تھا کہ "جس نے ہمارے اس کام میں کوئی نئی بات پیدا کی تو وہ مردود ہے" اور نئی بات بننا دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ دین کی پابندیوں کا کام نہ ہو اس کو دین کی بات ثواب کا کام قرار دیں۔ دوسرے یہ کہ جو درجہ اس کا دین میں نہ ہو اس کا بنادیں کہ جو کام نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت حرف جائز کہ اس کا کرنا بھی درست نہ کرنا بھی درست یا محظوظ کہ اس کا کرنا ثواب نہ کرنا بھی درست ہو۔ اس کو فرض یا واجب مقیدہ میں بنائیں یا علیم میں اس کو واجب قرار دیں کہ نہ کرنے والے پر لعن طعن پورا اقرار دین تو حدیث شریف کے حکم سے یہ مردود ہے بعثت ہے اور ہر بعثت گراہی سے برگراہی دوزخ میں ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے کہ ان کو بعثت حسنہ کہتے ہیں اور ان پر بعض حدیثوں کے لفظوں سے غلط دلیل سے آتے مگر یہ صحیح نہیں بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بعثت لغت سے تو پرانی چیز کو کہتے ہیں پرانی چیز جو پہلے سے نہ ہو، زبان و لغت کے اعتبار سے بعثت ہے پھر اس کی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ اس سے دین کو فائدہ ہو فرض و واجب صفت کو قوت پہنچ جیسے بڑی بڑی کلی مسجدیں بننا۔ درستے خالقا ہیں تو یہ ثواب کا ذریعہ بخشے سے ثواب ہو جاتی ہیں۔ یعنی دین ہیں۔ میں کا ذریعہ ہے کوئی بعثت حسنہ ہیں مگر لغت کے معنے سے دوسری وہ کہ نہ دین کا ذریعہ منافع و منفی قوہ جائز بعثت ہے لغت کے اعتبار سے جیسے کوئی میان بیگانہ ریل موڑ جہاز وغیرہ استعمال کی چیز یہی تینی تسلیمی وہ جو کسی منبع اور لگانہ کا ذریعہ ہو وہ بعثت سیئہ اور لگانہ ہے جیسے ساری گھنی نئی چیزیں تو یہ گنہ ہیں۔

یہ قسمیں ترجمان اور لغت کے اعتبار سے ہیں اور شریف مطہرہ میں بعثت کی تعریف وہ ہے۔ جو حدیث شریف میں آگئی ہے جس کو اور بیان کیا ہے۔ اور شریعہ کتاب میں بھی درج ہے۔ یہ شرعاً بعثت ہے اس کی دو تین قسمیں ہیں۔ یہ ایک بھی قسم بعثت سیئہ ہی ہے۔ سخت ترین گناہ شراب جو شرعاً بدکاری سے بھی گناہ حضور نبی کو گراہی اور ہرگراہی کو دوزخ میں فرمایا ہے۔ اور حضور شرعی مفہوم سے فرماتے ہیں جیسے نام اور انعام کے بھی شرعاً مفہوم ہیں اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

اور ہے جو بیت خطرناک چیز کیونکہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاقی ہوئی نہیں وہ دین ہیں پرسکتی اور جس کو اللہ رسول نے فرمی واجب قرار نہیں دیا، وہ فرض واجب نہیں ہو سکتی۔ اب بے اصل بالوں کو دین کتا دو طرح ہو سکتا ہے یا یہ قرار دینا کہ یہ اللہ رسول کی فرمائی ہوئی ہیں۔ تو یہ خدا و رسول پر بہتان ہے اور قرآن مجید میں ایسے بیان طرزوں کو اتنا تلقی فالم فرمایا گیا میں یا ان کا فرمایا ہوا تو نہیں قرار دیتے مگر بھی جسی اس کو دین اور کار ثواب قرار حیثے ہیں تو یہ صاف یہ بات ہے کہ رسول کے ہاتھوں کو ناقص و ناقص قرار ہیا اور نکے دین و احکام میں اصلاح یا ترمیم کی کتنی بھی نہیں اور اخلاق و رزمیں کے خلطیا مفہر یا غیر مفہم ہے تھیا اور اپنی بات کو خدا کو مقابلہ پر لا کر دکھل دیا۔ ذرا اغور کیجئے یہ سب اللہ رسول کی سخت ترین ترمیم ہے۔

## دُوسرِ مُسْلِم فاتحہ مروجہ کا

اس میں بھی وہی لفظ ہے جو مسلم ولد میں مذکور ہوئی ہیں کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصال ثواب بارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص

۱۷ یعنی اہل السنۃ والجاهز میں کسی کو نفس ثواب پہنچانے کے درست ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہاں شافعی حضرات مالی عبادت کے ثواب کے قابل ہیں بدغی کے نہیں، اور بعض اہل حدیث اور عتزر بالکل بھی منکر ہیں مگر تمام احادیث کے نزدیک نفل نماز روزہ بھی تماوت درود ذکر اور صدقہ و خیرات قربانی کا ثواب اپنے ذمہ مردہ سب کو پہنچانا جائز ہے جس کی دو صورتیں فتح حقیقی میں بتائی ہیں کہ کسی خاص یا عام کو ثواب ملنے کی صرف تیزی سے ہی وہ کام کر لیں یا ہال نیت پہنچنے ہو گی یا کام کر کے کہدیں کہ یہ کام فلاں کے لئے ہے یہی حدیث ترکان سے راجح و قوی ہو کر ثابت ہے۔ مثلاً تائحر کی یہ روایتی صورت کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر آیات قرآنی پڑھ کر ہی دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ صاحب کے نہ تابعین کے زمانہ میں نہ اولیائے کے کام کے ہاں الگ الگ سب ہیں الگ الگ جائز ہیں۔

\* (نوٹ ص ۲۳۴ سے آگے)

اسی نئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ "جس نے کسی بہتی کی تقریر کی اس نے اسلام کو مہنم کر دیا" اور ایسی باتوں کو مرد و فرمایا۔ پہنچا یہ اور سب گنجوں سے پڑھ کر گناہ بنتے کہ اس میں خدا رسول کی تریں و تحقیر لازم آجائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام کی توثیق بخشیں اور سہیش کو اس پر قائم رکھیں آئیں!

۲۸ ان سب باتوں کو یا وکر و الشام اللہ تعالیٰ ان سب سے نفع حاصل کر دے گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بارک کی جئے غبار صورت یہ ہے کہ تسلیخ احکام کے لئے دعوت وی جملے جو فرض کنیہ کام کی دعوت ہے۔ اور حضور کے احکام ارشادات افعال اعمال اخلاق انتظامات ویسا سات معجزات وغیرہ جو حضور کے اختیار کے کام میں حضور سے صادر ہوتے والے ہیں اور حضور کا حقیقی ذکر میں اصل بنا کر کے جائیں اور دریان میں غیر اختیاری باتوں کا جو حضور سے صادر ہیں ہوتے مخفی حضور سے تعلق رکھتے ہیں حسن و حلال قدرتیات ولادت مرض و صحت اور وفات کے حالات کے مجازی ذکر ہیں وہ ذکر ہوں اور بالکل صحیح احادیث سے بیان ہوں کسی ناجائز یا مکروہ بات سے آسودہ کر کے ذکر بارک کی تو ہیں نہ پڑھنے والے کافروں کی طرح درج

(باتی ص ۲۳۶ س)

## و تعیین کو موقوف لئے علیہ ثواب کا سمجھے یا واجب فرض اعتقاد کرے تو منوع

اے تحفظیں کہ صرف مٹھائی یا کھانا ہی ہریا فلاں فلاں کھانے ہوں اور یہ نہیں کرنا کہ وہ سانے ہوں اور ان پر آیات قرآنیہ ضرور پڑھی جائیں، اور پھر باختہ احکام کردنا کی جائے، مذکورون پر من متحاذ ان سے نقل نہ اس کی کوئی مانعت وارد ہے کہ اس وقت تھا ہی نہیں۔ اب اس کو ایسا سمجھیں کہ ثواب اسی پر موجود ہے بیز اس کے نہیں پہنچتا یا اس خصوصیت اور طریقہ کوفرض یا واجب عقیدہ یا عمل میں قرار دیجیں کہ نہ کرنے والوں پر اعترافات و طعن ہوتے ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف کے حکم سے مردوں پوگا گناہ عظیم ہو گا۔ اور جہاں ہر رابح ہو گا وہاں بغیر واجب سمجھے۔ شاہزادہ سندھزادہ کا لگا ہے عظیم ہو گا۔ اور جہاں ہر رابح ہو گا وہاں بغیر واجب سمجھے۔

لئے بینی پھرہ بمعت تو نہیں ہے لیکن اگر ماحول واجب سمجھنے کا ہو تو ایسا کرنیے ایک مشاہدہ اور خود کو ممتاز بنا نہیں کرہتے۔ زین میں احتلاج و ترمیم اللہ رسول کے دین کو تقصی و ناکانی قرار دینا۔

لئے یہ بھی ایسے ہی جائز ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو زیادہ نہیں ہر ف دو ایک سورتیں یاد ہیں یادوں  
﴿نحوٰ ص ۲۵ سے آجے﴾

تاریخ و انجمنی ختم، ہر جلسوں کی طرح و تھی ناخنی مقرر ہوا در حضور کے بے اہم احسانات کے باوجود سالی پھر ایک دن ذکر کرنا بڑی فروی ہے حضور کا ذکر مبارک تو ایسی چیز ہے کہ ہر دن ہر وقت ہر جگہ ہر بیان میں بار بار ہوتا ہے۔ جتنی قصیدیں لگیں گی ذکر کم ہونے کا سبب ہوں گی۔ چھر بھی نہیں کہ صرف زبان سے ہے دل سے بھی ہوتا ہے۔ کو عنطیت و محبت کا جو درجہ فرض ذاتی سے ہے پر وقت دل میں موجود رہے اور آنکھوں سے یہی ہو کہ دین کے احکام اور تمام اعمال و اخلاق وغیرہ کی کتابیں دیکھیں کاؤں سے بھی ہو کہ سنتیں اور ذہن حافظہ سے بھی ہو کہ ان سب کو محفوظ رکھا کریں، عقل سے بھی ہو کہ ہر چیز سے ان کی فوائد معلوم کریں، اور تمام جسم سے بھی ہو کہ جو جو حضور نے جس جس طرح کیا کریں۔ لوگ موتا ہے ذکر رسول کی ذذذگی کا کوئی منٹ اور سیکنڈ بھی ذکر رسول سے غالی نہ ہو اکام پریوی ہوا در کوئی کام بات چیز منٹ اسکے لئے بغیر نہ ہو۔ اور ساف عرضی کیا جانا ہے کہ جس بزرگ کو جو بھی درجہ طلبے وہ اسی طرح ہر طرح ذکر رسول سے طلبے اور ہر مسلمان کو اسی طرح ہر طرح کا ذکر برا بر سیئہ کرنا چاہئے یہی کمال کا ذریعہ ہے۔ اور حضور کے حقوق کی آدائیگی ہے۔ سال میں ایک دن کریں۔ اور باتی فاسد یہ میت ہی تاقص ذکر ہو گا۔ چھر یہ کہ صرف زبان سے وہ بھی ایک بھرا خیاری بات کا مجازی نہ ہو اگر دستے تو کام یا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور نے احادیث میں ایسے بھی ذکر رسول درج کیا ہے۔ کہ اصل احکام اعمال اخلاق اختیاری باتیں یہیں ساتھ ہوئے غیر اختیاری بھی کوئی کوئی کبھی کبھی ہے۔ ذکر رسول میں خدا در رسول کا بوجوہیہ ہے سب سے افضل دہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بہت کہ دوسرا سے طریقہ بننا خطرہ سے غالی نہ ہوں گے۔ اور ان کو ان سے افضل قرار دینا گناہ اور غیر راحب کو راحب بننا کہ مذلت اور حرام سے ذکر مبارک کو آنودہ کرنا سخت ترین اور کفر کے قریب ہو گی۔ ذمہ اسکے سے کام یا جائے کہ حرام ایک حنوزی نجاست ہے تو جیسے ہی ہری نجاست سے حضور کے ذکر دیباتی صفحہ ۲۳۴ پر

ہے۔ اگر یہ اعتقاد دنہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تلقینہ ہیئت کہ اسی

ہے تو کچھ تحریج نہیں جب مصلحت نہاز میں سوت خاص معین کرنے کو فقہاء محققین نے جائز کہا ہے، اور تہجد میں اکثر شائخ کا معمول ہے اور

لئے اس طرح کی عبادت اور تقدیموں کی کوئی دینی مصلحت ہو مگر واجب ہونے کا نہ اعتقاد ہو نہ مغل میں ضروری ہو کہ فلاف پر طعنہ ہے۔

لئے بینی پھرہ بمعت تو نہیں ہے لیکن اگر ماحول واجب سمجھنے کا ہو تو ایسا کرنیے ایک مشاہدہ کے لئے جواز کی دلیل بننے کا لگا ہے خرد ہو گا۔ مگر جہاں ایسا رواج نہ ہو داں کبھی کسی نے کریا تو جائز بھی ہو گا لئے یہ بھی ایسے ہی جائز ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو زیادہ نہیں ہر ف دو ایک سورتیں یاد ہیں یادوں  
﴿نحوٰ ص ۲۵ سے آجے﴾

لئے اس کو فرض واجب سمجھنے ہیں۔ نہ ایسا کرنے والوں پر اعتراف و طعنہ کرتے ہیں۔ نہ دہاں آہستہ ہونے سے اس کا ماحول ہے کہ سبھی یا سند جواز بن سکے یہی باتیں جہاں اس کے لئے ہوں گی وہاں جائز ہو سکتے ہے جو کبھی کرنے کبھی خلاف کرنے سے محلوم ہو گی۔

﴿نحوٰ صفحہ ۲۳۴ سے آجے﴾

آنودہ کرنا کوئی مسلمان برداشت نہیں کو سکت۔ اگر ایمان اور موشی صیغہ ہی تو معزی نجاست سے آنودہ کرنا بھی کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہو گا۔ یہی بات انگریزوں کے طریقہ سے کرنے میں خیال کر لیجئے، کہ کافروں کی خاص باتیں معنوی گذگی ہیں ان سے آنودہ کرنا بھی حضور کے ذکر کی توہین ہے۔ آج کل یہ حرکت نامسجدی سے بہت ہو رہی ہے۔ اس کو خوب ذہن نشین کرو انشا اللہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ یعنی آگے مسلوں میں یہی اس جیسی بھی باتیں آئیں گی۔ یہاں سے ہی ان سب سنت بمعت شرعی غیر شرعاً قابل اعتماد و ماقابل اعتراف ثواب و گنڈ کی راں کو خوب سمجھ لو گے تو سب میں یہ کام دیں گا۔

تال سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت محتی تھلاً کھانا پکا کر مکین کو کھلایا اور دل سے ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ متأخر ترین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت پر حندول سے کافی ہے مگر موافق قلب دلسان کے لئے عوام کو زبان سے کہنا بھی محتسن ہے اسی طرح یہاں اگر زبان سے کہہ لیا جاوے کے کیا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے تو بہتر ہے۔ پھر

اے غور کرنے سے۔ یعنی یہ توظیہ ہے کہ جو حدودت ہمارے ملک و قوم میں دراج پار ہی ہے۔ وہ خیر القوٰۃ حضور کے فرمائے ہوئے یہ تجزیہ ماذن حضور کا صحابہ کا تابعین کا ذمہ ان میں اس شکل کا ثبوت نہیں، اب یہ شکل مذکون تھے کیسے تجزیہ کر لی ہے غور کرنے سے یوں معلوم ہوا ہے۔ ملک قدیم بزرگوں میں ملک یا نفل نماز روزہ وحص صدقة خیرات تلاوت درود ذکر کوئی ثواب کا کام۔ ملک بعد کے لوگوں میں۔ اس سے مشتمل کے بعد کسے فقہاء مذاہن کیونکہ فقہاء نہ ایسا کیا تھا۔

بتایا۔ بلکہ عام مسلمان بعد کے مرا دہیں جو جدت پسند ہوئے۔ ملک نماز میں دسویں کا تجھم درجہ ہے تو دل اور زبان میں موافقت پیدا کرنے کے لئے ملک گریہاں دلوں نے درج ہے۔ علمائے اچھا قسم اور دیا ہے۔

ملک گریہاں دسویں کا نجوم نہ ہر کیونکہ یہ صرف خدا تعالیٰ کو تھی انہیں کہ اشیاط ان اس کے پیچے یہ سے ایک عزیز کا کام ہے چنانچہ تجھم پہنچا ہے کہ اس میں دسویں کا نجوم نہیں ہوتا۔ اور نماز خدا کا فرض ہے۔ اس میں نیت کرنا فرض ہے۔ اس کے وقت ہونے کا خدمتہ نہایت سخت چیز ہے اور یہاں تو یہ کام ملک اس کے لئے کیا ہے۔ دوسرا کوئی خیال نہیں۔ مگر پھر بھی کوئی عوچ کی بات نہیں کہ زبان سے کہہ لیں۔ ہاں اس کو ضروری دو اجنبی بنانے کا گناہ ہو گا جیسے نماز کے لئے بھی ضروری بنانے کا گناہ ہے۔ گورہ خدائی فرض ہوئیے شیطان پیچے پڑتا ہے۔ یہاں تو اگر دسویں بھی لائے گا تو اور دوچار کوٹاب دیتے کالائیں۔ اسیں کوئی سمجھنا نہیں۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سائے مذکون کی نیت کرنا بہتر بیکار دا جو یہ ہے کہ سب کو اور کرنے والے کو برآبر آبر ثواب ملتا ہے تو یہاں بخل سے کام لیا۔

کھو گئیں دعا افم نہیں۔ یہ کہتے بھی ایصال ثواب کے لئے کافی ہے کہ فلاں کے ملے ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانہ کر کے فرمایا تھا ہذہ لامة محمد دیت تمام امت محبیہ کے لئے ہے یہ حدیث ایصال ثواب سب کو ہر نے کی تھی ایک دلیل ہے۔ کیونکہ امت میں زندہ و مردہ اور تم پیدا ہرئے لوگ سب تھے۔ مگر ایسا کہنا بھی منع نہیں۔ اگر لازم نہ ہمیں تو بعد عدالت نہ ہو گا داعب کے ماحول میں تشبہ و سند کا گناہ ہو گا

کسی کو خیال ہوا کہ اس لفظ کا مشارک ہے اگر رو برو موجود ہو تو زیادہ استغفار قلب ہو کھانا روبرو لانے گئے کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جاوے تو قبولیت کی بھی آمید ہے۔ اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا۔ کہ جمعہ بین العبادات میں ہے۔ ع چھ خوش بود کہ بر آمید بیک کر شتمہ و کارہ قرآن مجید کی بعض سورتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا کہ دعا کے لئے رفع یہ دین سنت ہے لاتھ بھی اٹھانے لگے، کسی نے خیال کیا کہ جو کھانا کسی مکین کو دیا جاوے ویکا اسکے ساتھ پانی دینا بھی محسن ہے۔ پانی پلانا بھی بڑا ثواب ہے اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ سہیات

اے جس کی طرف اشارہ ہو کہ اس کا ثواب۔ ملک دل کا حاضر کرنا۔ مگر بعض کام ایسے ہیں کہ وہ رو برو ہو نہیں سکتے۔ تلاوت ذکر درود نماز روزہ کرنا منہ کچھ باقی نہیں ہے جس کی طرف بخوبی پڑھو کر فتح کرنے والے لفظ سے اشارہ ہو سکے اور گو خدا تعالیٰ کو سب علم ہے اشارہ بیکار ہے۔ مگر جو بھی تو ہمیں ہو سکتے جب تک اس کو فرض راحب نہ بنایا جائے۔ ہاں یہ گت خیال ضرور بن سکتی ہے کہ لعوذ بالله خدا تعالیٰ کو تھی انہوں کی طرح غلطی لگانے کا مشہد تھا اس لئے رکھ کر اشارہ ہو گا۔ یا کہیں سائے ہی کھانے کا ایصال ثواب نہ مرا در مر جائے۔ مگر ایسا خیال مسلمان سے بعید ہے اور کافر کی طرح دل حاضر کرنا ضروری نہیں مگر منع بھی نہیں؛ ملک اس کے لئے کیا ہے۔ دوسرا کوئی خیال نہیں۔ مگر پھر بھی کوئی عوچ کی بات نہیں کہ زبان سے کہہ لیں۔ ہاں اس کو ضروری دو اجنبی بنانے کا گناہ ہو گا جیسے نماز کے لئے بھی ضروری بنانے کا گناہ ہے۔ گورہ خدائی فرض ہوئیے شیطان پیچے پڑتا ہے۔ یہاں تو اگر دسویں بھی لائے گا تو اور دوچار کوٹاب دیتے کالائیں۔ اسیں کوئی سمجھنا نہیں۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سائے مذکون کی نیت کرنا بہتر بیکار دا جو یہ ہے کہ سب کو اور کرنے والے کو برآبر آبر ثواب ملتا ہے تو یہاں بخل سے کام لیا۔

ملک دو معاوی و قرآن کو جمع کرتا ہے قرأت و خیرات۔ ایک بد فی ایک مالی۔ جیتنک جیج کو ضروری یا جیجن کو ثواب نہ جیج کرنیکو کم یا بے قواب نہ کھیں اتفاقاً جیج ہوں جو جن نہیں تھے کیا اچھا بہ کہ ایک بھی اشارہ سے دکام نکل آئیں۔ تھے اُرچ ہر دن میں بھی صبح و شام اور مسفرت کا مول پانچاہ جلتا تھا میں باشرت کے وقت کی دعاؤں میں کہیں نہیں تھے اُرچ کی دعاؤں میں گرگنے بھی نہیں ایسے ہی پہل پانی میوہ وغیرہ کا ماتھیوں میں جیتنک کہ دوچار زرب لیں بدعت نہیں واجبک ماحول نہ ہو تو کہ بھی نہیں تھے یہ ایسی شکل جو رواج میں حاصل ہو گئی نہ تھے۔ مگر ایسا کہنا بھی منع نہیں۔ اگر لازم نہ ہمیں تو بعد عدالت نہ ہو گا داعب کے ماحول میں تشبہ و سند کا گناہ ہو گا

کہ ائمہ حاصل ہو گئی۔

رہا تعلیم تاریخ۔ یہ بات تحریر سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہوا اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور فرمودہ ہوتا ہے۔ اور نہیں تو سالہاں سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی فرض کی مصلحت میں

لئے کہ ان میں سہولتی ہیں۔ گر کوئی دینی مصلحت نہیں، اور نہ کوئی فرض واجب ہے اگر اس کو عقیدہ با عمل ہیں واجب قرار دیکر کریں گے تو جنم عنیم بن جائے گا جہاں کا ماحول واجب ہے جب تک باحول نہ بدلے گئے ہوں گے۔ چونکہ نہ فرض نہ واجب نہ سنت وکرہ جیسی اجنب قرار دیں گے منع کرنا واجب ہو گا لئے راذ جن کا علم صرف اہل کشف کو ہو سکتا ہے، گوہ شرعی دلیل نہیں نہ دوسرے کیلئے دلیل نہیں۔ نہ اس کو معلوم مگر جب اگر اس کو ضروری نہ قرار دے۔ جریج بھی نہیں جہاں تسلیم اور سند جواز نہیں سکتے۔ اور کشف سے کوئی شرعی بات نہیں معلوم ہو سکتی۔ نہ وہ شرعی دلیل ہے کوئی دینی بات لذت کی ہو سکتی ہے لئے جو انتظام دیہولت کی یہاں ہری ہیں اگر ان کو ضروری نہ بنائیں ان خصوصیتوں کی بیان ہوں۔

لئے یہ بعد عدت درود نہیں اگر ماحول واجب بنانے کا ذہر تو قشیہ و سند جواز بننے کا گناہ بھی نہیں ایسا باحول ہو تو گناہ ہو گا، اس کو بند کرنا ضروری ہو گا اور راجب بنانے کو بعد عدت ہو گا۔

لئے حد سے بڑھنا ان بالوں کو عقیدہ یا عمل ہیں واجب بنانے کو بعد عدت ہوتا ہے۔

لئے اگر اصلاح ہو جائے تو پہتر ہے پھر کسی اس سے منع کیا جائے اور اگر اصلاح نہ ہو۔ وہ خدا کریں تو چونکہ یہ کام فاتحہ نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ شعار دین خدا یہوں کی وجہ سے اس کو منع کرنا بھی ضروری ہو گا۔ کیونکہ پھر جائز کہنا تو خدا یہوں اور بعد عدت کو جائز کہنا ہو گا۔

لئے حد سے بڑھنا کم الیماں ثواب کو جی فرض واجب سمجھنے لگیں۔ یا اس خاص شکل وہیات کو یا سب باتوں کو با چند کے جمع کرنے کو

لئے وقت دناریخ مقرر کئے کی چار صورتیں ہیں ددعاضی کہر ن ایکا رکھنے جلسہ تقریب تقریب نتائج رشتہ کی تاریخ یا چند بار کیلئے گھنٹہ منت سے نہازوں کے اوقات تیری عورت دامی مگر بغیر ضروری واجب بنائے جیسے فخر و عذر کے بعد تسبیبات چو تکھہ ضروری واجب عقیدتی یا عالمی بنا کر دامتی ہوں یہ کہ فخر و اجنب کو واجب بنانا ہے تو ممکن ہے یہاں عادی بھی ہو اور ماحول واجب کا نہ ہو کہ لشیہ و سند جواز کا گناہ ہے۔

لئے عمل کے لئے مقرر کیا ہوا ہے،

لئے گویہ دلیل اس کی ہے کہ اس دسم کو بھی پورا کرنا ہے نہ میت کا خیال رہتا ہے نہ الیماں ثواب خود اس کی عزالت کے لئے کہنے کا شوق ایک دسم پر لگتی ہے، ایک جشن منانا ہے۔ اس رجسٹر کرنا اور فرمادی کرنا ہے جی چلہیے یا نہ ہے۔ پہنچے ہوں نہ ہوں۔ سودتی فرقی ہی کیون نہ لینا پڑے ورنہ فتنے پڑیں گے جگ ہٹانی ہوگی۔ ووگ کیا کہیں گے۔ بے عزتی ہوگی۔ کرنے اور عزتہ سے عزہ کرنے پس عزت موجی۔ تو بہ خود و شافعی کا گناہ سیٹا ہے۔ نہ ثواب ہو گا، نہ الیماں ثواب رقم بھی خائنہ ہو گی۔ اور اس خیال سے کہ اس تاریخ پر ہو تو ثواب آگے جیسچے ہو ثواب نہیں بعد عدت بنائیں ہٹا الیماں ثواب کی جگہ الیماں عذاب نہ بن جلتے۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو خفیہ خیرات کی اور مقدار کی نفعیت ہے کوئی شخص اس دسم کو چھوڑ کر اس افضل پر تباہ نہیں ہوتا واجب یہ صورتیں ہوں گی۔ تو رقم ہی فاتح ہو جاتے گی اور گناہ ہو گا کہ غیر واجب کو واجب سمجھا۔ اور یہ خیال نہ ہو تو جی واجب سمجھنے دا دل کی مثبتہ اور جواز سند بننے کا گناہ ہو گا اور فرمان حدیث کے افضل طریقہ سے ضروری ہو گی۔ جہاں واجب قرار دینے سے ہدین خالی ہو اور ماحول واجب کر کے کہنے کا نہ ہو وہاں التفاقاً کم بھی کوئی کم بھی کوئی تاریخ مقرر کر لینا درست ہو گا، ہاں ضروری واجب بنانا بعد عدت پر بعلت و محبت کا تفاہماً تو روزہ روزہ درم و دقت دمعت الیماں ثواب جو بھی ہو سکے خفیہ ہوتا دہنا مختار قریبہ رسم ہوئی یا محبت۔ لیکن بغیر واجب قرار دیتے بعد عدت نہیں۔

لئے جو نہ دین کے نافذہ کی ہیں نہ ضروری ہیں۔ ان کو ضروری یا نانا ہی بعد عدت بنادے گا۔ لہذا بدمل سرل کے کام کیا جاسکتا ہے: تاکہ کام بھی ہو اکثرے اور غیر واجب کو واجب بنانا لازم نہ آئے کہ اور شاہدت و سند جواز نہ ہو۔ عرص ضروری و راجب قرار دیتے بغیر ان کو بعد عدت نہیں کہا جاسکتا۔

کے فعل میں موثر نہیں ہو سکتا۔ لٹا اعمالنا ولکم اعمالکم۔

رہاسیہ تشبیہ کا اس میں بحث از لیں طریل ہے جنقر آنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشریف وقت تک رہتے ہے جیک وہ عادت اس قوم کے ساتھ اسی مخصوص ہو کہ جو شخص وہ فعل کرے اسی قوم سے سمجھا جاوے یا اس پر حیرت ہو، اور حب دوسری قوموں میں چیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبیہ جاتا رہتا ہے در نہ اکثر امور متعلق عادات و ریاضات جو غیر قوموں سے ما خود ہیں۔ مسلمانوں میں اس

لئے ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں تمہارے لئے تمہارے عمل  
اللہ تعالیٰ نے خوب پاکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں) حضور وہاں تشریف لے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوب پاکی کی تعریف کرتے ہیں، ازم کیا کرتے ہو، عرض کیا پڑوسی یہودی پاخانہ سے نکل کر پرانی سے پاکی کرتے ہیں ہم بھی کرتے گا۔ یا رسول اللہ اور کوئی بات معلوم نہیں فرمایا، یہ وہی ہے تم ایسے ہی کیا کرو تو یہ دوں کی بات عام ہونے سے حضور نے قبول فرمائی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تھی تو معلوم ہوا عام ہونے سے تشبیہ خصوصیت کا نہیں رہتا۔

کوئی ان کی خصوصیت نہ مذہبی تھی نہ قومی ان صاحبوں نے ان سے البتہ لیں تھی۔ در نہ ایسا وہ اور نافی کی حد شیوں سے خود حضور کا یہ سمول معلوم ہوا ہے اور دوسرے صحابہ کا بھی مندرجہ کی حدیث میں بحاب ان کا یہ تھا کہ "ہم نے تورات میں دیکھا" اور سابق شریعت کی بات جب کہ سلام میں منسون نہ ہو باقی رہتی ہے، حضور نے باقی رکھنے کی بذایت دیدی۔ کہ اسلام میں بھی تھی۔ گوپاٹی کم ملنے کے وقت اس پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اہل قبائلے پابندی سے کیا تو تعریف ہوئی۔

خیرات اتنا تو معلوم ہوا کہ عام بات تشبیہ نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ صورت بی عام ہو تو تشبیہ نہ ہوگی۔ وہی نہ کفر و قست۔ مگر چونکہ اسی سے نقل کی ہوتی ہے، اس لئے کچھ نہ کچھ کراہت خود رہے گی۔ جیسے آج کل کوٹ پیتلون یوٹ جو تا دعیرہ ہے۔

لئے یعنی اجنبی شخص دیکھے تو یہ سمجھے کہ شدید اہمیت میں سے ہے جب کہ وہ جانتا ہو کہ یہ اتنے کا مذہبی یا قومی شعار ہے۔ اور اگر یہ نہ سمجھے تو اس کو حیرت تو ہو کہ مسلمان ایسا کیوں کر رہا ہے۔

ہے مسلمانوں میں بہت سی عادتیں کافریں سے آگئی ہیں۔ کھانے پینے رہنے سپنے کے طور طریقہ آگئے۔

البہت جو ہدیات عام نہیں ہوتی، وہ موجب قشیر ہے اور منوع۔ پس پہ ہدیات مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک تدس اللہ سرہ کی۔ دسوال۔ بیسوان۔ چھلہم۔ ششماہی رسالیانہ۔ وغیرہ اور فوٹرہ حضرت شیخ احمد عبد الحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سمی حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حلواۓ شب برات اور دیگر طریق ایصال ثواب کے اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔

اور مشرب فیقر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فیقر پابند اس ہدیات

کے اگر خصوصیت نہیں میں قشیر ہے تو کفر اور خصوصیت قوی میں پڑے تو فتنہ وگناہ ہے منع ہے کہ ایصالاً ثواب تو کافر ویں ہے نہیں تو اس کے مشابہ ایصال نہیں ہو سکتا صرف سامنے مکر کر ڈھک کر کسی کے نام کو دین اسکی نقل اور قشیر ہو سکتا ہے۔ جو عام ہونے سے اگر عام ہو جائے مکر و درہ جائے گا۔ اس کو کفر و بدعت نہ کہنا چاہئے۔ ہاں غیر اللہ کے تقرب کیلئے ہوں تو شرک ہیں۔ کہ اصل میں تو نبی فرض نہ واجب نہ سنت نہ منتخب هر ف جائز ہیں اور چونکہ اسلاف میں یہ چیزوں نہیں محتین، مخالفت بھی مذکور نہ ہو سکی۔ اب اگر ان میں دن تاریخ ہدیات دوچار چیزوں کا جمع کرنا اور خود یہ ہر کام کرنا واجب بن کر ہو گا۔ عقیدہ ہیں یا عمل میں تو بدعت اور گناہ عظیم ہو گا اگر خود می کر کے نہیں تو جہاں واجب بنانے والے ہیں۔ ہاں ان کی مت بہت اور جواز کی سند بننے کا گناہ ہو گا۔ جہاں واجب کر کے کرنے والے نہ ہوں داں خالص نیت سے کبھی کبھی کرنے کرے گا تو گناہ بھی نہ ہو گا۔ لیکن اگر ان افعال کے ذریعہ ان بزرگوں کا تقرب مقصود ہو گا۔ تو اسلام میں مرد خدا تعالیٰ کا ہی تقرب بتایا گیا ہے۔ یہ غیر کا تقرب شرک بن جائیگا۔ یہے وقت سب کا مرد کو رونا فرض ہو گا۔ اور چونکہ یہ سب افعال فرض واجب نہیں ہیں۔ اب ان کو اصل سے ہی بند کرنا اس شرک سے بچانے کے لئے فرض ہو گا۔ اور سند و جوب بنانے میں بند کرنا واجب ہو گا، نہ روکنے والے بھی گناہ ہو گا۔ ہاں اگر ان سب ہدیات کیونکری ہدیات بے اصل ہے مرد ایصالاً ثواب ہے میں ہو طرح ہر ہدیات سے ہو سکتا ہے۔ اور ان قیಡوں ہدیات کو وحوب تک پہنچانا بدعت اور اس حد سے پہلے بھی جہاں وحوب سمجھنے والے ہوں ان کی مشابہت اور سند جواز بنتے سے معصیت ہے۔ بگو مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ نہیں مگر احتیاط اس سے میلحدگی کیے۔

کا نہیں ہے۔ مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا اور جو عذر آمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہئے یعنی ہر دو فریقوں کا باہم مل جل کر رہنا اور مباحثہ و قیل و قال نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو وہی و بعثت نہ کہنا اور عوام کو غلوتے اور جھگڑوں سے منع کرنا یہ سب بحثِ مولد میں گذرا چکا۔

اے۔ نیک گمان رکھ کر کم مسلمان بے اصل چیزوں کو ضروری نہیں قرار دے سکتا اور یہاں مکمل کردہ مسئلہ کے وگ برتے ہیں جو ان چیزوں کو واجب قرار دیتے ہوں۔ کہ کو عوام کے سامنے جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ تھانی میں ایک دوسرے سے معلوم کرنے میں جھگڑا نہ ہو گا۔

کلھ عبد اوباب سجدی جو اپنے فرقہ کے پسا دوسروں کو مسلمان نہ سمجھتا تھا اس کی طرف منسوب نہ کوئی خصوصیت حنفی علاوہ کو کر وہ تو حنفی تھا یہ بالکل تہمت ہو گی حنفیوں کو ایک حنفی کی طرف منسوب کرنا اس سے گناہ ہو گا۔ کہ یہ بھی بعض دفعہ تہمت بن جاتے گا۔ بدعت تو جیسے حدیث سے ثابت ہے غیر دین کو دین پا غیر واجب کو واجب بنانے ہے اور مسلمان ایسا کب کر سکتا ہے۔ بلے تحقیق کسی کو بعثت نہ کہہ دیا کریں خوب تحقیق سے کام نہیں۔

کلھ حدست نسلکنے سے کہ کسی وقت و تاریخ صورت میں ہدیات دوچار چیزوں کو جمع کرنا اور اسی قسم کی ہر پابندی سے من کریں جو عقیدہ یا اعلیٰ میں واجب بن جاتے اور جہاں لوگ واجب بن کر کرتے ہوں وہاں بالکل نہ کریں ورنہ ان کی مشابہت اور لوگوں کے لئے جواز کی سند بننے کا گناہ ہو گا۔ اور کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے سو اکسی اور کسے تقرب کے لئے نہ کریں کہ یہ شرک بن جاتا ہے اور ایک دوسرے پر معن نہ کریں کہ بھی جھگڑے کا سبب ہوتا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس سے منع وارد ہے۔

کلھ اس کے آخری آیا ہے وہاں من حاشیہ کے دکیاں میں اور یہاں بھی اس کو جاری کریں۔

لپکھ پیر مجاہیوں سے ملنا موحیب از دیاد محبت و ترا بید بکات بے اور نیز طالبوں کا  
یہ فائدہ ہے کہ پیر کی تلاش میں مشقت نہیں ہوتی۔ بہت سے مشائخ رونق افروز ہوتے  
ہیں۔ ان میں جس سے عقیدت ہر اس کی غلامی اختیار کر لے اسے مقصود ایجاد رسم عرس  
سے یہ متحاکم سب سلسلے کے لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جاوے ہیں، یا ہم ملاقات بھی ہو جاوے  
اور صاحب قبر کی روح کو قرآنؐ کے وظعہ کا ثواب بھی پہنچایا جاوے، یہ صلحت ہے تصدیق شے

لے اسے من محبت و برکت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ اور چونکہ اسے بخش اند کے تعلق کی درجے سے ہے اسے یہ  
حرب فی الشدہ ہو گا، جس کی حدیث میں ذکر ہے۔ اور گود محبت دُور رہ کر بھی ہوتی ہے اور دوسرے  
وقتوں میں نئے سے بھی زیادہ ہوتی اور بار بار ملتے سے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اس ایک دم سب سے  
ختم میں بھی کچھ کچھ توبات بحث کے زیادہ ہونے کی ہوتی ہے۔

۳۰۷۔ ہر کام استاد سے حاصل کرنے میں جلد اور عذر ہوتا ہے تو شریعت پر عمل کے طریقہ میں کیسے اس سے  
بھی یہ ناکہہ ہوگا۔ اسی کو پہنچتے ہیں۔ مگر اس و باہر طاش سے ہتا ہے۔ یہاں بھی تلاش سے کام بھر کر  
لئے دین جیسی نعمت کے لئے را ہبہ بخوبی کرنا ہے تو خوب خوب تقویٰ و طہارت سنت نبوی کا اتباع بڑی  
عادتوں سے پاک اعلیٰ عادتوں سے مزین اور تمام حالات ادعاات و اخلاص کی پرکھ کی خرودت بسراور دہ فوزی  
ملاقات میں ہو سکتی۔ عادتوں پاس رہنے سے ہو گی۔ اگر بہت سے اپنے ہی مسلم کے سہی بزرگوں کی اصلاح  
پرکھ بوجپکی ہے اور اب عرف ایک کا اختیار کرنا بات ہے تو اس میں ایک دم ملاقات سب سے ہو سکے گی۔  
اور گورمیہ بہنا یا کرنا اصلاح نفس و رستی اخلاق و اعمال کا ایک معاملہ ہے اور معاملہ زبانی تحریری خط  
وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے کئی دوسرے پونا ہی ضروری نہیں، مگر باختہ میں باختہ دے کر بیعت کرنا متحب ضرلیتہ  
جسے یہ سہل ہو سکتا ہے جیکہ پہنچ سے سب تحقیق مکمل ہو جائی ہو۔ ورنہ خالی ملاقات کچھ ایسی شدید نہ ہو گی۔

۳۰۸۔ مرد آتنا تھا کہ اگر آنا بھی دکھا جائے تو قابل اعتماد زیادہ نہ ہو گا۔

۳۰۹۔ کو دور دراز جگہ سے ایصال ثواب کرنے میں اور مزار پر اک کرنے میں شر ہاگ کوئی فرق نہیں۔ ایصال ثواب پنی شرذوں  
کے موافق بر جگہ سے برابر ہے اور غریب ایصال ثواب بھی نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ سخت بھر جائز ہے مگر  
اتنگ کو بھی نہیں۔ جب تک اس کو زیادہ ثواب یا دوسری ہنوت میں ثواب کم یا بالکل بھی نہ ہونا نہ قرار دیں اور  
قرات و فدام کے جمیع کو زیادہ ثواب اسکے بغیر کم یا بالکل نہ بنانام سمجھیں ورنہ بدعت ہو گا۔

۳۱۰۔ صرف اس سہولت کیلئے عارضی تفہیں ہوتی ہے اس کو ضروری داجب کا نہ ہجہ یا باغفت ہو جائے اور جہاں کل  
واجب کی طرح بن لیں گے یہ بھی کہا ہے بخاہی گا۔ کوئی کہ یہ مقصود تو عارضی تفہیں ہے جلوں اور تفریبوں کی طرح سے بھی ماحصل ہو سکتا ہے

## چھپر اہلسکلم عرس و سملع کا،

لقط عرس مانوذ اس حدیث سے ہے نَمَّ كَنْوَمَةُ الْعَرْسِ لعنی بندہ صالح سے کہا جاتا ہے  
کہ عرس کی طرح آرام کر کیونکہ موت مقبولان الہی کے حق میں وصال محبوب حقیقی ہے اس  
سے بڑھ کر کون عروسی ہو گی۔ چونکہ ایصال ثواب بر وح اموات مستحق ہے ہے خصوصاً  
جن بزرگوں سے فیوض دبرکات حاصل ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ ادھر

۳۱۱۔ یہ ترمذی کی حدیث کا جزو ہے۔ بر من نیک کر دار کئے ارشاب کے کسی کی خدمت نہیں  
مگر بزرگ لوگ اول نمبر پر اس میں داخل ہیں تو وہ عرس یعنی دہن اور موت شادی عرس پر فی۔ بھکن ہے  
بعد میں لوگوں کے جمع ہٹے کرشادی میں جمع ہونگی مانند رونقی یا میلہ جیسا ویکھ کر مسیں (شادی) کہنے لگے ہوں  
لئے دہن یعنی شادی۔

۳۱۲۔ اچھا کام ہے گرفض و اجب سنت محبوب میں مگر اچھے کرنے کے بعد عمل کا سلسلہ میں ہو جائے تو ہر ہن تھکھ  
گھے سیونکہ ان کا دینی احسان ہے اور احسان کا بدلہ احسان عدل و نقل سے ہونا اچھا کام ہے۔ گوہے  
ڈر اسٹی رینیا دین میں ماں باپ کلہے اگر وہ مسلم کی حجج کا فرنا دیتے جیسے کافروں کا پہنچے بچوں کو  
بنارستے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایران کی سببے ٹری دوست اہنی کی بدوکت می ہے اور سب کمالات اور فائدے  
وجود میں آنے سے ہو گے اور وجود و پیدائش اہنی کے فیل سے ہے تو دین دینا کی سب بھائیان اخیں  
کی وجہ سے ملین مکان جائز اور میں ہافت قوت عقل سمجھی تعلیم سب ان کے ذریعہ ٹاہے۔ ان کا بھی احسان  
زبردست ہے مگر بزرگوں دین کا بھی احسان ہے اور گورہ زیادہ ضرور تھا نہیں۔ عزیز اور دوسرے گن ہاگ  
من نوں کو زیادہ حاجت ہے مگر احسان اور دینی احسان بھی ٹری چڑی ہے۔ ان کو بھی ہونا چاہیے  
لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بزرگوں کو ایصال ثواب ہوان کو بھی عرف اسی نیت سے ہو کہ ہم پرانکے حاذۃ  
میں اگر نیت یہ ہو گی کہ ان کا تقرب حاصل ہو گا تو خدا نے قعلہ کے سراکسی تقرب حاصل کرنا چاہئے نہیں  
یہ ایک شرک کی صورت ہو جائے گی اور اگر یہ نیت ہو کہ وہ ٹاکریں گے تو اول تو قرداں کو اس کا واعدا کرنا یعنی  
نہیں پھر یہ عاکی اجرت یا اشتہر کی صورت بن جاتی ہے اور اگر یہ نیت ہو گی کہ وہ خوش ہو کر ہمکو رزق یا  
ادلا دیں گے تو اسیں بھی شرک کی برآجاتی ہے اور اشتہر یا آجر میں انکے احسان کے بدلہ احسان و حتف چاہیہ ہر ہنی ہے

لیوم میں، رہا خاص یوم وفات کو مقرر کرنا۔ اس میں امراء مخفیہ ہیں۔ ان کا اعلان ضرور مہینے چونکہ بعض طریقوں میں سماں کی عادت ہے اس لئے تجدید حال از دیاد شوق کے لئے کچھ سماں بھی ہونے لگا۔ پس اصل عرس کی استعداد ہے۔ اور اس میں

لئے چیپے راز جو کسی صاحب کشف پر ناخواستہ ہیں اس کے لئے بھی اس دن کی تعین کی اس کش کے سال میں گنجائش ہے، تہ مدد فرمائش ہوتا ہے کہ کشف دوسرا دن کے لئے ترجیح کی دلیل برداشت ہے۔ زکری کے لئے بھی شرعی دلیل ہے لیکن دن صاحب کشف کو کشف کے وقت گنجائش فروز رکھیگا۔ اندھا ہر ہے کہ نہ جسم ہو، واجب اذناریخ ہجھ ہونا واجب نہ کشف و جوب کی دلیل نہ دوسرے کے لئے کسی دلیل میں بھی معتبر ثواب اس کو علاض دری سمجھ لینا بھی بدعت ادا یہے ماحد میں شرکت بھی بدعت کی شرکت ان کی مثبت اور حرام کی سذ کا گناہ کہ اس میں کا نزول کے ذمے جنم دن یا برسی کی مشابہت ہو گئی جو اُن کا قومی شعار ہے جیسے بیلا و بوز دلادت میں قشیرے اس لئے بھی گناہ ہو گا، جہاں واجب کا ماحد نہ ہو، کبھی کسی نیز کبھی کسی سے کوئی گا دکے مات نہ ہو تو خیر۔

لئے یعنی مشقیہ اشعار کا گانا سن جو ایک نفس فی جوش و خوش اور ذوق و شوق پیدا کرتا ہے بعض دفعہ سخت محابہ سے قبض لینے دل کی گفشن ایسی شدید پیدا ہو جاتی ہے کہ اس وقت بعض آدمی خود کشی کر گزرتے ہیں۔ اور بعضی کی جان نکل جاتی ہے۔ جان بچانے کے لئے ذرا دیر کے لئے چند شرطوں کے ساتھ اس نفس فی لذت کی ٹرف مان کیا جاتا ہے: تاکہ اس کی جان بچ جائے کیونکہ جب کوئی دوازدہ رہے تو حرام دو ایک بھی شریجت نے گھنی لش دی ہے وہ اس وقت ایسے معاذ ور ہوتے ہیں جیسے سخت ترین مجرما کو مردار کرنے کیلئے، ایسی مجرمی میں شرطوں کے وافع کی اجازت ہو گئی بلا یقینی تھیں لئے جاں کو نیا بناۓ اور شرق کو زیادہ کرنے کے لئے کہ دل کی گھنی دوہرہ تدبیح حال تازہ اور شرق اذمر نہ ہو کہ زیادہ ہو سکے۔ سماں کی اصل وجہ تریخ بھی، اب نقل ہی نقل ہونے لگی ہے۔

لئے یہ قبض یعنی ول گھنی کی مشدت کے وقت ہے۔ دیگر اس کو نام کرنا حلال نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث اور اجماع و فقہ سے ہرگز حرام اور اس کا سنا بھی حرام بے اور حرام جان جانے میں بچاؤ کی بقدور دست ہو سکتا ہے۔

لئے اگر اسی قدر و کتنا جائے اور گاندھی اور زینت واجہت اور جمیع فرائیت و خدام و فیرہ کو مثل فرض واجب کئے نہ بباپا جائے۔ اور بہاں عام کرنے والے ان کو واجب بن لینے والے نہ ہوں۔ کہ کبھی کبھی کوئی حافظہ کر الیصال ثواب کر دیا کوئے۔

لئے کوئی چرخ معلوم نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے بعض حدیثوں سے بھی اس کا استنباط کیا ہے، رہ گیا شبہ حدیث لا تختد واقع بری عبیداً کا تذاس کے صحیح معنے یہ ہیں کہ قبر پر میل لگانا اور خوشیاں کرنا اور زینت و آراء شنگی و دھرم و دھام کا انتہام یہ منزوع ہے کیونکہ زیارت مقابر واسطے عبرت اور تذکرہ آخرت کے ہے نہ غفلت و ذینت کے لئے۔ اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ مدینہ طیبیہ قافلوں کا جانا واسطے زیارت روضہ اندس کے بھی منع ہوتا۔ وہندہ اب اطل

لئے ظاہرات ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو اور کوئی دو باکل باقی نہ رہے تو ماہر کی بخوبی سے حرام سے بھی علاج درست پر جاتا ہے جیسے گلے میں کچھ ایک جائے جان جانے لگے اور سوانے شراب کے کوئی چیز حل میں آمارتے والی نہ ہو تو اس قد رشراپ جائز ہو گی کہ اس کو آثار دے اسی چرخ یہاں بھی شرطوں کے ساتھ بعض شدید کے وقت اس تدریگا ناسن لینا درست ہو گا، جس سے وہ گھن دوڑ پر جائے اور پھر حرام ہو گا۔ یہ خطرہ نہ ہو تو حرام ہی ہے۔

لئے بلکہ قرآن شریف سے بھی شدید بھرک کے افسرار میں مردار کھانے کی اجازت بقدر سید رہت ہے ایسے بھی جان کے خطرہ پر ہو گا۔ پھر نیز حلال نہ وہ حلال غرض جان کے خطرہ میں اجازت ہے، اور خطرہ بھی ماہر کی نظر میں ہو۔

لئے حضر مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میری قبر کو عبید نہ بنانا۔

لئے ہر دہ عرس حرام ہے جس میں میل خوشیاں زینت دھرم دھام ہو، یا اور کوئی گٹ دیا غیر واجب کو واجب بنانا ہو۔

لئے قبروں کی زیارت خواہ بزرگوں کی قبروں کی یا عام مسلمانوں کی کہ اس فائدہ میں سب برادر ہیں۔ لئے کہ دنیا ہی عمل کی جگہ بے عمل و بے لبس جیسے یہ قبروں والے ہو گئے۔ ہمیشہ نیک عمل کی ہی فروتن ہے، جو کام آسکے درمیں پھر عمل نہ ہو سکے گا جیسے اب یہ عمل پر قدرت نہیں رکھتے۔

لئے آخرت کو خوب یا و کرنے کے لئے۔

لئے خدا اور اس کے احکام نبی اور ان کے ارشادات سے غفلت اور دینی زینت جو میوں کو فراہم ہے لئے اور یہ بالکل بے خود حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے جی کیا اور میری زیارت نہ کی گیا اس نے بھرپڑیم سیں لبند ابر طرح کا جمع جنمانی نہیں۔ ابی طمیہ روز اور باہر کے لوگ ماستہ کی وقت سے بہت بہت مل کر ہمیشہ بربر قافلوں جاتے ہیں کسی نے منع نہیں کیا اور یہ منع ہے کہ جس ہونا سال بھر میں ایک بار عید کی طرح اور پھر جھوٹ جانا اور یا میلہ سا کرنا منع ہے۔

پس حق یہ ہے کہ زیارت مقابر الفراداً واجتماعاً دونوں طرح جائز اور الیصال ثواب قراءت وطعم مبھی جائز اور تعین تاریخ مصلحت بھی جائز سب مل کر بھی جائز رہا۔ رہایش شد کہ وہاں پیکار کر سب قرآن پڑھتے ہیں اور آیت فاستمعواً اللہ وانصاتُوا کی مخالفت ہوتی ہے، سو اولًاً تو عملانے لکھا ہے کہ خارج نماز کے یہ امر استحباب کے لئے ہے ترک مستحب پر اتنا شور دغل نامناسب ہے۔ ورنہ لوگوں کا ہر کا تیب میں پڑھنا بھی منوع ہو گا۔ دوسرے کی کیوں یہی تحقیق ہو گکہ یہ وجوب عام ہے تو اصل عمل کے منع کرنے سے پیدا ہوتا کہ یہ امر تسلیم کرنا یا

الله تبروک کی زیارت اللہ یا جمع ہو کر اگر ضروری نہ ہنا ہیں۔

لئے عارضی بھیتے جلد حلیس تقریب کی ہوتی ہے یا دامنی مگر غیر ضروری غیر واجب کر کے درمیانہ کا سبب ہو گی۔ بدعت بن جاتے گی، اور جہاں لوگ واجب کرتے، وہاں مشاہدہ و مندرجہ ذکر کا گذشتہ کیونکہ جائز مل کر بھی جائز ہی رہیں گے، لیکن اگر ان کو جائز کی حد میں نہ رکھا، واجب قرار دے لیا، عقیدہ میں باعمل نہیں تو بدعت ہو گا؛ یا خود جائز رکھا، مگر ماحول واجب کرنے کا ہو گا تو گناہ بن جائے گا۔

لئے حب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، تم اس پر کام لگاؤ، اور خاموش رہو، کم ہر ایک کو دوسرا کے سنتے کا حکم بے اور راجح فقہ حنفی میں یہ ہے کہ نماز میں بھی باہر بھی۔ لئے مکتبوں میں جو نچے قرآن شریف یاد کرتے ہیں، آزاد سے پڑھتے ہیں اور دوسرا کے خاموش ہو کر نہیں سنتے، تو وہ بھی منوع ہو گا۔ مگر ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ نماز کے باہر کا یہ حکم نہیں، کوئی فرقہ ہو گا کہ قرآن مجید کی تعلیم کچھ فرض صین کچھ فرض افزا یہ ہے، اور یہاں یہ کچھ نہیں، دوسرا سے نابالغ بچوں پر احکام واجب نہیں ہوتے اور بالغ کو بھی ادائے فرض میں۔ لئنی لش ہو گی، مگر پھر بھی حکم سب کو واجب کا قوام رہا۔ گراخت لافی مسلمین احتیاط پہنچتا ہے۔

لئے سب کو بتا دیا جائے کہ ذریسے پڑھنے میں دوسروں کو خاموش رہنے واجب ہوتا ہے۔ اور اس میں صدر سے نہ پڑھ سکیں گے، لہذا سب آہستہ پڑھا کریں۔ اگر باوجود سمجھانے کے نہ مانیں تو رکنے کا حق ہو سکے گا۔ اول بھی منع کرنا صحیح نہیں۔

جادے۔ میں جواب ہے سوم میں قرآن پکار کر پڑھنے کا البتہ جس مجلس میں آمور منکرہ مش رقص مروج و سجدہ قبور وغیرہ ہوں اس میں شرکت ہونا چاہئے۔  
رہا مسلم سماج کا یہ بحث ازبس طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے

الله تیجہ کے دن کے پڑھنے کا ہے لیکن اگر اس کو بطور رسم پڑھیں اور اس خیال سے کہ وہ دوست یا عزیز رہا مانے گا ایک کو ہمارے ہیاں کوئی نہ آئے گا تو خدا اس طبقہ میں ہوا نہ تو اب بدل، نہ الیصال ثواب ا۔ وقت نہ تنہ مرفقائی ہو گیا اور پڑھنے پر جو اجرت نقد یا مٹھائی یا چھنے یا کھانا دیا جائیگا یہ قرآن فردی کام ہی بھیتے دیتے داے ۔ دو ذر کو گناہ ہو گا۔ بحثتے ایصال ثواب کے گذہ ملیئہ، اور با وجود سمجھانے کے لوگ نہ مانیں تو منع کرنا ہو گا۔ کیونکہ ایصال ثواب فرض واجب ست متحبین شوار دین نہیں اسکو خرابی کے بعد منع کرنا ہیں دین کی بات ہے اور تفسیر سے دن کو ہی فردی سمجھیں تو بعد یا واجب کے ماحول میں کریں گے تو مشاہدہ و مندرجہ ذکر کا گذہ دہرگا جلوس داے اپنی اپنی حکم جتنے ول چاہے جب چاہے پڑھیں وہ صیغہ اور آہستہ آہستہ پڑھیں جہاں اور لوگ بھی ہوں گے خلاف شرع ناجائز

لئے رواجی ناچ کو صوفی لوگ یا دوسرا ناچنے لگتے ہیں۔ یا طائف کا بھی ناچ کرایا جاتا ہے۔

لئے قبڑیں کو سجدہ کرنا اگر پرستی عبادت ہو گا تو کفر و شرک ہے۔ پرستی تعظیم ہو گا تو حرام ہے۔ لئے شرکت بھی گناہ ہو گی، اگر خود بھی ان ہاتھوں میں لگے تو گناہ ظاہر ہے تو لگے تو ایسی محدثین کی شرکت جس میں گناہ ہو رہے ہوں گا ہے۔ ایسے بھی گناہ ہے اگر دہل غیر واجب کو واجب یا ایسے ماحول میں کیا گیا ہو لئے بہت لمبی بحث ہے۔ امام عزال الدین نے امام راک امام شافعی اور امام ابو حیینہ اور بہت سے علماء سے نقل کر کے کہا ہے کہ سب کا قول حرام ہونے کا ہے اور امام شافعی سے یہ بھی نقل کیا کہ یہ زندگیز، بنا پر مسلمان اندھے غیر مسلم لوگوں نے لگھرا ہے۔ تاکہ قرآن مجید میں دل نہ گئے دین میں مرسٹ و محیط میں بھے کہ گناہ بھی حرام اور اس کا سنت بھی حرام ہے بنا کہ العزیز کا فتویٰ ہے کہ جس نے گئے کو صاحب کہا وہ فاسد ہے۔ بہت حدیثوں میں گا نے اور سنت کی مافعت ہے۔ گانیوالی عورتوں اور جھاٹوں پر لمحت ہے۔ مگر بعض نے چند شرکوں سے اور پر ناجائز بات سے بچنے پر جائز کیا ہے۔ بلکہ قبض کے نزدیک جان کے خطرہ میں بھی حجاز رعدم حجاز کا اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک اس خطرہ سے نکالنے کا اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ تو ناجائز ہے۔ اور جن کے نزدیک اور کوئی طریقہ نہیں پرسکتا، وہ سالت اخظر امیں مردار کی یعنی کی طرح بقدر علاج خطرہ جائز قرار ہے۔

کریم مسک اخلاقی ہے بسامع محض میں بھی اختلاف ہے جس میں محققین کا یہ قول ہے کہ اگر شرط جواز معمق ہوں اور عارض مالعمر لفظ ہوں تو جائز ہے درہ ناجائز کہا فصلہ الامام الغزالی رحمۃ اللہ اور سماع بالآلات میں بھی اختلاف ہے

لہ گو اختلافی میں بھی ہی اختلاف ہے۔

۳۔ بغیر با جوں کے اشعار کا گاتا سنتا،

۴۔ جائز ہونے کی شرطیں جمع اور مانعت کی تائیں ہو رہیاں ہیں۔

۵۔ جیسے کہ امام غزالی رہ تے مفضل کہا ہے۔ اور امام غزالی پاپنے شرطیں بھی ہیں۔ وقت ہو کہ اس میں کوئی ضروری کام شرعی یا طبعی نہ ہو، اور جگہ راست دستکام کی نہ ہو بلکہ کوئی ساختی دولت باطن سے بلے پڑتے ہو جس کو ہوتا ہے۔ موجودہ طریق سے نادائقت نہ ہو۔ شہزادہ پر، مجبور اسے مجبور میں باپر ہوئی۔ مجبور سے دھیان پشا کر اپنے باطن میں بھی جس و حکومت لگاربے عگا جب تک ضبط کر سکتا ہو، نہ کھڑا ہو زخم لے۔ کوئی مغلوب الحال کفر ایجاد کریجی ایسے ہو کہ قبض شدید ہو کر اس کی جان نکل جائے، بشرطیک حال کے ختم پر وہ بیٹھ جائے۔ اور امام موصوف نے سماع کو حرام کرنے والی بھی یہ پاپنے بتائی ہیں۔ ملا کافرے والی عورت یا حسین زندگانی پر ملا آذساع شرایبیں اور بھرطوں کا شرعاً پوجیسے ہر قسم کے باجے یکتا را دو تاویتی طبلہ دھول وغیرہ ۶۔ اشعار میں خدو خال قد و قادت مجبوران مجازی کے حسن و صفات کا ذکر نہیں کوئی اس پر مذکور اسے تو نہ ہو، اور کوئی خواہش باقی نہ ہو،

۷۔ کہ جس پر تبعن خطرناک حالت کا ہوا درخوش آرازی کے اشعار سے بھی دور نہ ہو تو جن کے نزدیک دوسرا علاج بھی بو سکتے۔ یہ خوش آرازی کے اشعار آلات یعنی ساز کے ساختہ سرام ہیں اور جن کے نزدیک دوسرا علاج اور تم رہا ہو تو مردار کانے کی طرح احتضر اوری حالت میں صرف آنکھ اسکی جان بچ سکے جائز ہے۔ ورنہ امام ابوحنینہ کی کتاب فتنہ اکبر کی شرح میں قرآن مجید اور ذکر رسول کو با جوں کے ساتھ کفر قرار دیا ہے اور رحمۃ مبارکہ میں یہ متفق کی حدیث حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ ڈھنڈا حرام یا جسے حرام ڈھنڈا جرام با نرمی غیر حرام ہیں اور بخاری و سلم وغیرہ کی اور دوسری بیت حرمیوں میں حرام ہیں جن سماع حضرت معاذی کا رسالہ ویکھ لیا جائے۔

بعن لوگوں نے احادیث منبع کی تابیلیں کی ہیں اور لفاظ فرمیہ پیش کئے ہیں۔ چنانچہ  
فاضل شاعر اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے رسائل سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے  
مگر آداب و شرائع کا ہونا یا جماعت فرمی ہے جو اس وقت میں اکثر مجاہس میں  
مقود ہے مگر تاہم خدا پرخ ایکشت بیکساں نہ کرو، بہر حال وہ احادیث ہے جو احادیث اور حمایت

لہ کہ ان کو روایتیں ضعیف ہیں اگر دشیں کھی جان چند ضعیف مل کر توی شمار برجائیں، اور بخاری وسلم وغیرہ  
کا اوپر ہتھ حدیث میں حرام ہونا ذکر ہو، مگر بھروسی میں کہ جان جاتی ہو، گنجائش میں ممکن ہے۔

۸۔ جن سے علاقو شرع باقتوں سے حاصل ہوتے پر جواز مددم ہے اسے۔ بھروسے مفسدر کر رہا کہ نہ جعل میں  
محروم ایک جانتے مرنے کا خطہ ہو کوئی حلال پلی چجزہ ہو تو شراب سے آمار لینا، لہذا قبض شدید میں بھی اس طرح  
گنجائش ہے۔ اور بھروسے اخلاقیں میں بھی احتیاط لازم ہوتا ہے۔

۹۔ کم میں اس لئے ان ذمۃ کی مجلسوں کے حرام ہونے میں شبہ نہ رہا، جو اپریلی میں ہے۔ آج کل سماع  
جو بنا واقع صرفیوں کی عادت ہے صین و بال اور موافق انسکار ہے۔

۱۰۔ خدا تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں برادر نہیں کی ہیں۔ اس لئے مکن تھے کہ شاید یہ ایسے شدید قبض میں خلا  
ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ شرطیں جائز ہوئے کی سب جس ہوں اور حرام ہونے کی ایک بھی نہ براں لئے جب  
مکے تو یہ دلیل سے معلوم نہ ہو جانتے لشک رہے گا جس کا قائمہ مجرم کو مل سکتا ہے۔ مغلوب الحال ہونے  
کا احتمال بھی ہے۔ بے تھقیق نہ کہنا جانتے۔ درتہ ہوش و حواس بجا ہوتے پر اگر جواز کی سب شرطیں  
بھی ہوں، مانعت کی وجہ کوئی نہ ہو تو بھی حلال و حرام کے اخلاق ایسے بھی جانتے۔ اور  
عرام و فوائد موزوں کے ایمان کے بیچاؤ بدعت و حرام کی مٹیت اور سند جواز کے لگاؤ سے بچانی لازم ہے  
لہے وہ حدیث جو صحابہ سے اب تک اتنے رادیوں سے نہ آئی ہو کہ عقل ان کے تھوڑا ہوئے کر خال

سمجھے ایسی حدیث سے فرض یا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، واجب یا مکروہ تحریکی جو نہیں کیا جاتے تو اسے  
گو مکروہ تحریکی عمل کے درجہ میں حرام ہی ہو، مگر آیت اور حدیث متواتر و مشور سے تو اس کا درجہ  
م بہتر ہے اور ایسی خطرناک بھروسی میں گنجائش ان سے بھی ثابت ہو رہی ہے بغیر تھقیق حالات کچھ نہ  
کہن چاہئے۔

۱۱۔ اور اگر حدیثیں قومیاً و صیحیاً بھی ہوں تو ان میں تابیل یعنی اور احتمال کی گنجائش ہے اس لئے  
ایقینی ثبوت یعنی فرض یا حرام کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کہا جاتے ہو گئے۔ لیکن حرام قرآن مجید  
اور احادیث اور احادیث صحیح سے ثابت ہے جیسے اور عرض ہو چکا ہے۔

تہاولیل گرتا ایل بعید ہی ہوا اور غلبہ حال کا بھی احتمال موجود ایسی حالت میں کسی پر اعتراف کرنا از لبس دشوار ہے۔

مشرب فیر اس امر پر یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اول قدر آن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ اگر وقت

میں درست ہوئی تو مولد پڑھا جاتا ہے۔ پھر با حضر کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اس سب کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اور زائد امور فقیر کی عادت نہیں، نہ کبھی

لھا اور ایسے وقت ہوش و حواس باتی تدبیہ پر شرعاً دار و گیر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہوش و حواس بجا ہوں تو بے شک حرام کام ہے۔ اس کے تخفیف کر لینی چاہئے۔ اور اگر ہوش و حواس بجا ہے۔ جیسے پہلے مسلم کے آخر میں آچکا ہے۔ بلا کسی قید و تخصیص کے اور مکمل مکرم میں باحول بھی خود اکو واجب قرار دینے کا نہیں۔ نیت کے خلوص عدم مشابہت عدم سند جو اذن بنے سے درست ہوتا ہے۔ اور ضروری سمجھنے کا تو شہر ہی نہیں۔ تم تاریخ کا معین ہوئا۔

بلا تخفیفات و قیدات و نداعی وغیرہ کے جیسے پہلے گزارا۔

لکھ جو بجود ہوئی اس کی بھی کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ مٹھا قیامتی اور مٹھیں چڑھا ضر ہوا پیش کر دیا۔ اور آنے والے نیک بی بھتے غرباً بھتے تھے۔ جن کو کھلانے کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ روایتیات کوئی نہیں کرتا ریک وفات ہو، بلا بلا کر جائی جاتے۔ دوستوں دیسیوں کو بلا یا جائے۔ جن کو کھلانا نہ ثواب ہونہ ایصال ثواب مکن ہو، قرآن خوانی الگ۔ ایک عبادت پہلے ہو تو پھر سرشد علی مولود الگ اس کے بعد پھر کھانا عزیز یوں نیکوں کو کھلانا الگ۔ کبھی یہ کبھی دہ نہ جمع لازم نہ الگ الگ لازم۔ ایسے ہی اور یوں بھی گھر پر کریا کریں، عرس کی خرابیوں اور ایصال ثواب کی بدعتوں سب سے پہلے جائیں۔

لکھ نہ تاریخ وفات پر ہونے کا اہتمام بلکہ جب چاہا کر لیا بلاد عوت دے دے کہ مٹانے کے بلا تخفیفات کسی کھانے وضن اور ختم فاتحہ وغیرہ کے لیئے بیرون سب پابندیوں کے جو لوگوں نے حفوظ صورت تابعین سے نقل ہوتے بغیر گھر رکھی ہیں۔ اور غریبی کو کھلانا نہ کر دیں کوئی کویا حکام کو۔ گران سب پاتوں کو عقیدہ و عمل میں واجب کئے بغیر اور ایسی جگہ جہاں کا باحول ان کے واجب قرار دینے کا نہیں مکمل مکرم میں اگر ان تخفیفات کو برداشت پا جاتا تو گاہ نہ تھا۔ مگر آنہ دل کر کہیں ہوگ اس عمل سے ناجائز پہ ولیل نہ لے لیں ایسا نہیں کیا۔

سماں کا اتفاق ہوانہ خالی نہ بالا لات۔ مگر دل سے ابلحال پر کبھی اعتراف نہیں کیا۔ بالجو محض ریا کار و مدعی ہو وہ بُرا، مگر تعین اس کی کہ فلاں شخص ریا کار ہے۔

یہ بلا جھت شرعیہ نادرست ہے۔ اس میں بھی عمل درآمد فریقین کا ہی بونا چاہئے، جو اد پر مذکور ہوا کہ جو لوگ نہ کریں ان کو مکالم اتباع

لے کیونکہ وہ حرام تھا اور وہ بھروسی داعی اور کی صورت جس میں شرطوں کے پاسے حافنے اور منع باول کے نہ ہونے کے وقت جائز بھی ہیں جانا ہے۔ حق تعالیٰ کو فضل و احسان ہے کہ وہ قبیلہ یعنی دل کی ٹھنڈیں بھی پیش نہیں آتی۔ اور ساعت خالی اور آلات مزاہر کے ساتھ دونوں ہی حرام ہیں مزاہر اور زیادہ حرام ہے اس سے مجبوری اور غیر بھروسی ہر حال میں بچالیا۔

لکھ اور ایسے وقت ہوش و حواس باتی تدبیہ پر شرعاً دار و گیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بزرگ کو ملے اور نہ کرنا چاہئے تھا، کیونکہ جن پر حال کا غلبہ ہو، ہوش و حواس سے باہر ہوئی اور ایسے بزرگ کو ان میں مغلوب الحال ہونا بخوبی ہو رہا تھا۔ تو جس کو غلبہ حال غصوں ہو جائے اعزام کرنا ہی درست نہیں ہوتا۔ لکھ لوگوں کو وحافنے کے لئے اور بزرگ کو کادعویٰ کرنے کیلئے کرنا یہ اس کا دھوکہ ہے۔ کر خواہ محظاہ لوگوں پر اثر ڈالنے کے لئے بنادٹ کرتا ہے۔ جس کے ہوش و حواس درست ہیں اس کے لئے حرام ہی حرام ہے اس کی روک حفاظ سب پر واجب ہے۔ کہ وہ مغلوب الحمال لوگوں کو بھی بدنام کر رہا ہے۔

لکھ جن لوگوں کو ایسی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل نہیں کر دے اس کا مغلوب الحال ہونا مسلم کر سکیں۔ اور کرفی اور بخوبی شرعی دلیل اس کے ہوش و حواس درست ہونے کی نہ ہو جان کے خطرہ میں بنتا ہوئے کی نہ ہو تو ان کو اس وقت لگ جن طبق سے کام لینا چاہئے تاکہ احتمال ہونے پر اعتراف نہ ہو اور جب ہوش و حواس بجا ہو تو اس بجا ہوئے قبیلہ اور خطرہ سے خالی ہونا بخوبی دلیل سے معلوم ہو جاتے بنادٹ اس کی ثابت ہو جائے تو پھر وہ کن واحب ہو جاتے گا۔

لکھ پوری طرح سذت بخوبی کا شرطیں کہ جس پر تمام اولیاء اللہ نے سوت تاکیدیں اور وصیتیں کی ہیں حضرت عنث اعظم اور سب بزرگوں نے اتباع سنت کا حکم اور بعثتوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے خود حضرت حاجی صالحؒ نے خیام التکوں میں پر فرمایا ہے کلات پند و تصویت۔ طالبہتی رہا یہ کہ اول تخفیف مسائل مزدیسیہ بخوبی غفار ناجیر نہ ہے ایسا کتاب و سنت و آثار صابر باید بعد ازاں ترکیہ و تخلیہ نفس از رذیل شاید (طالبہتی کو چاہئے کہ اول ضروری مسئلہ کو حاصل کرے سچ تصحیح نہیں دا سے فرستے کے عقیدوں کے کرے اور ترکیں دعویٰ اور نیکوں کے اثرات کی پریوی کرے اسکے بعد نفس کو عمدہ یادوں سے زینت اور بُری عادتوں سے خالی کرنا چاہئے اور فرقہ ناجیر کے عقائد میں جو اس حدیث سے بیری است میں نہ گز فرستے ہوں گے، سب دندٹ میں ایک بہت سی جاتے گا۔ (باقی حصہ پر ملاحظہ ہو)

سنت کا شائکن سمجھیں جو کریں ان کو اہل محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں۔ جو عوام کے غلوٹ ہوں، ان کا لطف دہنی سے انداد کریں۔

## پر حوتھا مسلسل نذر اُرے غیر اللہ کا

اس میں تحقیق یہ ہے کہ نہ اسے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں کبھی عرض اٹھا رہ شوق کبھی تحسر کبھی منادی کو سنانا، کبھی اس کو پیغام پہنچانا، سو مخلوق غائب کو پکارنا، اگر مخفف واسطے تذکر اور شوق وصال اور حضرت فراق کے ہے۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی لگنا نہیں۔ مجنوں کا قصہ مشتری میں مذکور ہے:-

لکھ مجنوں را یکے صحراء نور و	در بیان علمی بنشستہ فرد
ریگ کا عذ بو دو انگستان قلم	می خودے بہر کس نام رقم
گفت اے مجنوں شید اچیت ایں	می نولی نامہ یہ رکیت ایں

لکھ یا تو خطاب کرنا ہی مقصود ہوتا ہے یا خطاب مقصود نہیں مخفف دل کی بھڑاس نکالنا ہے شوق و مسرت یا رہنک و حضرت ظاہر کرتا ہے۔ وہی نہاد دینا اور پکارنا ہے۔ مقصود کچھ نہیں بلکہ پکارنا بھی مقصود نہیں۔

لکھ شرق ملقات کو دیسے ہی ظاہر کرنا زبان سے کہنا بغیر کسی کو مخاطب بنانے کے۔ لکھ رجہ اور حضرت جدائی کی فاہر کرنا کسی کو خطاب کرنا نہیں۔ لکھ جس کو پکارا جائے اس کو نہ امتنان مقصود ہے اس سے خطاب کرتا ہے۔ ہے اپنے دل کا یا کسی کا پیغام دینا ہے۔ اس سے اس کو مخاطب بنانا ہے۔ لکھ یاد کرنے

کے مجنوں کو ایک جنگل میں گھونسنے پھر نے داسے نے دیکھا کہ اپنے غم کے میدان میں تھا بیٹھا ہے۔ نہ ریت کا عذ تھا، اور انگلیاں قلم، کسی کو خط لکھ رہا ہے۔ پوچھا اسے مجنوں عاشق یہ کیا ماجرا ہے، تم جو خط لکھ رہے ہیں ہر کسی کو کہا ہے ہو،

اے یعنی مغلوب الحال کہ جن کے ہوش دھاس بے قابو ہوں مدد و ہر یا شر الط کے موافق اور گناہوں سے پچھے کر رہتے ہوں بشریکہ شریعت کے پابند ہوں۔ ان میں معتبریت کے آثار ہوں نہ کہ ہر آوارہ کریہ سمجھیں لکھ کر سماں نہ فرض نہ راحب نہ سنت نہ مسح بکھر حرام ورنہ کم از کم حرام حلال کے اختلاف میں حرام سے بچنے میں بھی اختیاط ہے اور راحب یا کارثواب قرار دینا سخت ترین لگتا ہے ایسے بھی عرس کا ایصال ثواب ہر جگہ سے ہو سکتا ہے زیارت تبریز کے لئے جائز ہے، مگر ایسا وقت مقرر کرنا کہ اس کے خلاف سے لعن طعن ہو گاہ ہے۔ اور سب کے یا پست کے جس ہونے میں ثواب نہیں زیادہ ہوتا۔ اور ہر یہ بات جو گناہ ہے اس کو مزار بارک کے قریب کرنا بھی لگتا ہے اور صاحب مزار کی تکمیل کا سبب ہے۔ ان سے تقریب حاصل کرنا شرک ہے۔ ان کو خود بخود دولت و اولاد دینے والا سمجھنا شرک ہے۔۔۔۔۔

ڈعا کہ نا ان کا اختلاف ہے۔ ثابت نہیں اس لئے سوائے زیارت اور دعائے رسمی درجات و تلاوت چند آیات سب ناجائز باہیں ہیں۔ اگر ناجائز باتیں کیں تو اسی وقت بھی لگاہ ہرگاہ اور اگلی نسلوں کے لئے یہ سلسلہ جاری رہ کر ہمیشہ لگتا ہے۔ درگناہ پڑتا رہے گا، اور اس وقت بھی دیکھ دیکھ کر جو لوگ کریں گے ان کا بھی لگاہ ہو گا۔ اس لئے سب کو عقل و ہوش سے کام لینا چاہیے۔ حضرت محتفہ نوی کا رسالہ حق اسماں اس مسئلہ میں ہبایت معتبر اور مفصل مضمون ہے۔ اصلاح الرسم میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔

لکھ ہم رانی ورزی سے مسلسل بند کرائیں۔ اگر پھر بھی بند نہ کریں تو دوسرے ذریعے اختیار کرنے کی گنجائش ہوگی۔ مسلمانوں کی دینی خیر خواہی اسی میں ہے جیسے کہ مسلم شریعت کی حدیث میں خصر کا ارشاد ہے جو تم میں سے خلاف شرع بات دیکھے اس کو طاقت سے بدل ڈالنے ایمان کر کے تو زبان سے کہے یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں اُسے بڑا جانے۔

[ صفحہ ۵۵ د سے آگے] صواب ہے پوچھا۔ وہ کون سا ہے۔ فرمایا۔ وہ جو اس طریقہ پر ہے جس پر میں اور پیر سے صحابہ ہیں۔ لہذا جسکے عقیدہ و عمل میں حضور اور صحابہ سے سند نہ ملتے وہ نجات کا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ہوش و حواس درست کر کے اپنے تو اس طریقہ کا تابع بندا نجات کا راستہ ہے نہ کہ نئی نئی چیزیں لکھنے کا۔ اور قرآن شریعت کی بہت آیات میں سنت کی پیر وی کا حکم ہے۔ لہذا جو بات نبھی صلحی اور علیہ وسلم و صحابہ کی سنت میں نہ ہو اس کو ترک کر کے سنت کی پیر وی لازم ہے۔

گفت مشقِ نام لیلے جی کنم؟ خاطرِ خود را تسلی می کنم  
ایسی نداء صحابہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے کہا لا یخفی  
علیٰ المتصح المتسبح النظر۔ اور اگر مخاطب کا اسماع عینی سنا ناقصو ہے  
 تو اگر تصنیفیہ باطن سے منشی کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو بھی جائز ہے۔ اگر مشاہدہ

لہ بلا لیلی کے نام کی مشت کر رہا ہوں۔ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ توجیہے وہ لیلی لیلی لکھتا اور کہتا  
نخاتون لیلی کو خطاب کرتا تھا، دل کی بھڑاس نکالتا اور شوق اور نہضے پر حسرت کرتا تھا.  
لہ جیسے کہ علم کے دریا و میٹ انظر و گور سے پوشیدہ نہیں اور آج بھی کل دنیا ایسا کرنے ہے کہ بت  
شوق اور جدال و حسرت میں مردہ عزیز دل کو کہا جاتا۔ اسے فلاں! تو ایسا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا تو اس  
سے خطاب متعدد نہیں ہوتا۔ یا الفتوح کو ذہن میں چمک خطاب بھی کرتا تھا ہے مگر یہ جانتا ہے کہ فراس نک بات  
بینچے گئے نہ شہر ہوگی۔ اس میں گوبلنطاہر خطاب بے مگر حقیقت میں انہارِ شرق یا حضرت ہی ہے پکارنا تما  
نہیں یہ سب جائز ہے۔

لہ تصویر کو خطاب نہیں خود ذات کو ناماً القصور ہے اور وہ ذاتِ زور و نہیں قویں صور تیں ہوں گی  
یا غیر اللہ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی طرح پرجگہ موجود متنے والا ویکھنے والا جانے والا سمجھ کر بے تو یہ شرک ہے  
اور اگر اب نہیں تو پھر اگر یہ شخص صاحب کشف ہے جس کی خابری علامت انتہائی تقویٰ و طہارت بھی ہوتی  
ہے اور وہ تصنیفیہ باطن سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس وقت کشف ہو رہا ہو، دریان کے جیبات اٹھ گئے ہوں۔  
کیونکہ نہ بردقت کشف، تو ماہے نہ ہر ایک کوہتا ہے۔ ہر حال اگر جو ذاتِ زور و نہیں ہے، خطاب جائز ہے  
اگر مشاہدہ نہیں کر رہا ہے مگر سمجھتا ہے کہ ظاہر ذریعہ سے آدازان کی پہنچ ممکن ہے۔ تو اگر کسی شرعی  
دلیل قرآن و حدیث اجماع و قیاس مجتہد سے بھی تاثیت ہو کر انہیں یہ آداز کوئی بہینجا دے گا۔  
تو صحیح و جائز ہے۔ مگر ولائل شرع سے سائے خضرور پر صلة و سلام کو طالب کے پہنچانے کے اور  
کسی بات کا پہنچانا کیا کوئی تاثیت نہیں تو یہ گناہ ہو گا۔ اس سے بھینا لازم ہے کیونکہ صرف درود و سلام بھی پہنچ  
ہے۔ تو اب خطاب کرنے میں پرجگہ موجود یا پرجگہ کا علم رکھنا ماننا ہو گا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے  
خاص ہے۔ دوسرے کے لئے ماننا شرک بن جاتا ہے اگر یہ نیت نہ ہو تو اگر وہاں کچھ لوگ اس طرح کسی نبی یا ولی کو  
مرحوم یا علم رکھنے والے سمجھتے ہوں گے۔ تو وہاں آداز سے اس طرح خطاب کرنا مشرک کی مشاہدہ  
اور دوسروں کے داسطے سند جواز بننے کا گناہ ہو گا، بلکہ تا قیامت آئندہ نسلوں کے لئے بھی سند بننے کا گناہ  
گناہ مجاہدہ و ریاست سے باطن کی صفائی و درشی سے  
5۔ جس کو تہادی جاتی ہے یا خطاب کیا جاتا ہے اس کا۔

نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو یہ خبر پہنچ جائے گی۔ اور وہ ذریعہ  
ثابت بالدلیل ہو تو بھی جائز ہے مثلاً ملائکہ کا درود و شریعت حضور اقدس میں  
پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول  
اللہ کے کچھ مخالفہ نہیں اور اگر نہ مشہود ہو تو پیغام پہنچانا مقصود ہونہ پیغام پہنچنے کا کوئی  
ذریعہ ولپل سے موجود ہو وہ ندانہ متنوع ہے مثلاً کسی ولی کو دور سے ندا کرنا اس طرح کہ اسکو  
نہیں نہ انتظو ہے اور وہ روکھ و نہیں نہ ابھی تک اس شخص کو یہ امر ثابت ہوا کہ انکو کسی ذریعہ  
سے خیر پہنچی یا ذریعہ متعین کیا مگر اس پر کوئی دلیل تعریغی قائم نہیں، یہ اعتقاد افتراء

لہ شرعی دلیل قرآن حدیث اجماع اور قیاس مجتہد سے کہ ان چار دلیلوں کے علاوہ کوئی شرعی دلیل  
نہیں نہ کشف نہ الہام اور حکایات و تاریخ کے واقعہ تربکل ہی لیل نہیں بنتہ کہ خوبیے ثبوت ہیں۔  
لہ صرف اس طبیعہ سے کہ جیسے حدیثوں میں ہے فرشتے حضور کو درود و سلام پہنچا دیتے ہیں، نہ کہ اس  
طبقیدہ سے کہ حضور پرجگہ سے خود سنتے ہیں، کہ وہ بنے اصل اور شرک کے فتريہ ہے مگر جہاں لوگ ہر جگہ سے  
بننے دیکھنے کے عقیدہ سے کہتے ہوں وہاں آداز سے یہ کہتا ان کی مشاہدہ اور سند جواز ہیں کہ گناہ ہو گا،  
وہاں یاد کرے یا آہستہ کرے، یا ذہن میں آھوٹے کر آہستہ کر کرے۔

لہ مشاہدہ میں نہ پر تو تصنیفیہ باطن سے نہ دیسے درود و نہیں سے  
لہ کے نہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ نہ ہونے سے پیغام پہنچانا مقصود ہو کہ ذریعہ پر کوئی شرعی دلیل نہیں۔  
لہ گناہ بے وجہ آگئے آتی ہے کہ شرک کے قریب ہے ہرگز ایمان کوئی نہ آداز سے نہ آہستہ  
لہ خطاب کرنا۔

لہ دیسے ہی سانہ بیباطن کی لوزانیت دریان کے جیبات انہیں کاشف نہیں۔  
لہ کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔

لہ ذریعہ خود فرض کریا بلا دلیل۔

لہ اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے کہ یہم تمہاری ندا پکار ان کو پہنچا دیا  
کریں گے۔ اگر اس خیال کے ساتھ ہو کہ وہ خود تو نہیں معلوم کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ  
سوائے درود و سلام کے اور کسی وہ نہیں۔ یہ تہمت سخت گن دے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،  
وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ إِنْ تَرَى عَلَى اللَّهِ كُفَّارًا

[اس سے زیادہ ظالم اند کون ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے]

علی اللہ اور دعا میں علم عیب ہے بلکہ متابہ شرک کے ہے مگر یہ دھڑک آس کو شرک و کفر کہ دینا جرأت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس بزرگ کو خبر پہنچا دے ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک کرنے نہیں، مگر چونکہ انکان کو وقوع لازم نہیں اسلئے ایسی ندائے لائیں کی اجازت نہیں ہے۔ البته جو ندائے نفس میں وارو ہے مثلاً یا عباداً اللہ اغْنِیُوْنِی وہ بالاتفاق جائز ہے اور یہ تفضیل حق عوام میں اور جو اہل خصوصیت ہیں ان کا حال جد ابے اور حکم یہی جد اکہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے جو خواص میں سے ہو گا خود مجھے لیکا بیان کی حاجت نہیں۔

لہ اور اگر خود ہی ہر جگہ کی بات کو جانتے سا خیال ہوگا قوان کے لئے علم عیب ثابت کرتا ہو اجو خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے ثابت کرنا شرک کی ہمارتہ لایعلم الغیبے الاہو (علم غیب سولتے خدا تعالیٰ کے کرنی نہیں جانتا)

لہ مولود کے بیان میں حاشیہ میں تفصیل پیش کی جا چکی ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ علم ذاتی یا کس کے دیستے مذنا تو شرک ہے اور دیا ہوتا مان کر بعض بعض کا یہ محن حق ہے وحی والہم یہ ہے ارادہ ازالت سے ابتدک برہیز کا ماننا بھی مفتاح شرک بتایا ہے لیش طیکہ کبی معتبر غلط نہیں ذکر کی ہو، اس لئے مرغیب کو شرک کہن بنط اور بھیجا جھات ہے۔

لکھ ممکن کے ممکن ہونے کا اعتقاد حق ہے شرک نہیں، اور اس کے واقعہ ہونے کا اعتقاد بے اصل بلا دلیل ہونے سے گناہ ہوگا، مگر شرک نہ ہوگا، اور کسی صفت الہی میں شرکت ہو گی تو کھلا شرک ہے یا قرآن و حدیث کے قطعی حکم کے خلاف ہوگا، تو کفر ہے، جیسے ہر بھی کابوی ہر زمان عقلًا ممکن ہے، مگر قطعی حکم کے خلاف ہونے سے کفر ہے اور حکم کے موافق ہونے سے فرض ہے۔

لے بے فائدہ ہم کی کہ جب کرنی دلیل اس کی نہیں کہ ان کو آزاد پہنچا تی جاتے گی تو یہ اعتقاد گناہ ہے، بلکہ شرک ہے اگر یہ بہتان میں مانا گیا ہے۔ لہ حدیث شریف

لکھ لے اللہ کے بندوں میری مددگرو، یہ جائز ہے کیونکہ اللہ کے بندے فرشتے جن کے متعلق تجویزی (جوہام) انسان کے اختیار میں باہر ہیں) انتہا میں کیلئے متعددین جگہ جگہ موجود رہتے ہیں، بستے ہیں، کام انجام دیتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث سے معلوم ہے، کوہہ سم کو فخر نہ آئیں ان کو بوجوہ بونیکی وجہ سے خطاب کرنا درست ہے اللہ پر دعووں کو تیاس کرنا بے اصل بے دلیل ہے غلط ہے لہ اللہ تعالیٰ کی تری نسبت لکھنے والے ہیں ان کا حال ہی اور بھٹکے ان کو باطن کی صفائی سے سامنے نظر آتے ہیں ان کا ان سے باہمی کرنا اور باطن کا اپنی نسبت کی قوت کے لئے مدد دینا عبادت کی غدرگی کا ذریعہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔

بیان سے معلوم ہو گی حکم وظیفہ یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ کا، لیکن اگر یہ شیخ لومتھے حقیقی صحیح ہے تو منہج رحمی الشرک ہے۔ ہاں اگر صرف وسیلہ و ذریعہ جانے لئے اس وظیفہ یہ وباخیں حقیقی طلب ہیں۔ ایک تو یا کہ کے خطاب کرنا، دوسرا سے ان سے دانگنا تم جو اس کا یہ اس حقیقی وباخیں حقیقی طلب ہیں۔ تو اپنے کی تعریفے باطن دا یک درج مبارک بطور کرامت یا رفع حجارت مثلاً بدھ میں آئے گی تو اس کو پکارنا جائز ہے اور درسرے لوگ جو ایسے نہیں ان کے لئے سخت گناہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد پسخاہ یتے ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ پر بہتان ہے جس کو قرآن میں خالی عظیم فرما دیا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ بر جگہ سے ہر بات نہیں ہیں قرآن غیب کا ثابت کرنا اور اگر خدا تعالیٰ کی طرح بر جگہ سے جانتا مراد ہے تو کھلا شرک ہے اور دوسرا ممکن ہے جو اس کا دوست کرنا جاوہ ہے۔ اس کی کتنی نسوانی ہیں، اور ہر صورت کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو منور ہونے ہو یہ دے سکتے ہیں۔ تو کھلا شرک ہے اور اگر یہ مراد ہو کہ اللہ نہیں دے سکتے، یہی دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جابر بن الجراح کے کفر ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جسی سے سمجھے ہیں محراب نہیں دیتے عرف یہی دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو معطل فارمایا یہ بھی کفر ہے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بے دلیل ہے گناہ ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کر دیں تو اپنے تبر کا دعا کر دینا یقینی نہیں اس لئے یہ بے شرمن ہے اور گناہ ہے۔ لہذا اپنے حالت میں یہ شرک اور کفر نہیں، ایک دو حالت عرف گناہ کی ہے تو شرک کہ دینا ہر صورت کو صحیح نہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ دونوں کو اختیار ہے تو اگر خدا کے برادر یا زیادہ کبھا تو شرک ہے اور یہ تم سمجھا تو یہ اصل ہے خدا پر بہتان ہے۔

لہ بذا خود بلا اللہ تعالیٰ کی اجازت دشمنوں کے دینے والا سمجھے تو شرک ہے۔

لکھ شرک کی فرم کیجئے والا ہے ایسا سمجھے کہ تو شرک قرار پایا گیا لیکن مسلمان سے یہ بات بعد یہ ہے کہ وہ ایسا سمجھے اسٹھے ایسا وظیفہ شرک تک پہنچا سکتا ہے اس سے بھی بھی لازم ہے۔ کو بعض صورت شرک و کفر نہ ہو جیسے اپر عرض پوچھے کسی کا خدا تعالیٰ تک دعا پہنچنے کا واسطہ و ذریعہ سمجھے محراب اسکی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ ان کا خدا تعالیٰ اپر کوئی حق سمجھے کہ ان کو واسطہ ذریعہ بناتا ہے تو چونکہ علوی کو تعالیٰ تعالیٰ سے قدرہ کو سخندر ذرہ کو آنے کے جنبی بھی نہیں نہیں کسی کا خدا تعالیٰ اپر کوئی حق نہیں ایسا عقیدہ رکھا گا اسے، دوسرا ہو رہ یہ کہ مانگن حق تعالیٰ سے ہی ہے اور انہی کی صفت کو ذریعہ بناتے ہے اس طرح کارے اللہ یہ آپ کے مقبول بندے ہیں اور آپ کو مقبولین اور انہی محبت والوں سے تعلق ہے، اس تعلق کے واسطے جو آپ کی ایک صفت ہے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان مقبولوں سے محبت والے ہیں ہم کو یہ عنایت فرمادیجئے یہ جائز ہے مگر یہ لفظ اس فرج و اسطر بنانے کے طریقہ نہیں کرتے وہم پیدا ہوتا ہے خود ان سے مانگن کا اسٹھے ذریعہ ہیں یا لفظ بدل کے بالشیخ عبد القادر شیخ اللہ (شیخ عبد القادر شیخ اللہ کے تعلق کیوجہ سے اسے اللہ کو پیغام بخواہی فرمائی) تو ان لفظوں میں ان منے کی کتنی لشکل سکتی ہے ورنہ گناہ ہو گا۔

یا ان الفاظ کو با برکتِ مسیحہ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے، کچھ حرج نہیں، یہ تحقیق ہے اس مسئلہ میں۔ اب بعض علماء اس تھیال سے کہ عوام فرقہ مراتب نہیں کرتے۔ اس نہیں سے من کرتے ہیں ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات الدیش مگر مصلحت یوں ہے کہ اولاً تو نہ اکرنے والا اگر سمجھدار ہو تو اس پر حسن طن کیا جائے اور حجۃ مغض غامی جاہل ہو تو اس سے دریافت کیا جائے، اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے اور اگر کسی وجہ سے اصل عمل سے منع کرنا مصلحت ہو، بالکل روک دیا جائے لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مضید نہیں ہوتا۔

لہ نہ پکارنا مقصود ہونہ ان سے ملگا مقصود ہو گئی سے سن کر یا غلط نہیں سے فالی ذہن ہو کر، با برکت قرار دے کر پڑھتا ہے تو یہ شرک و کفر نہ ہو گا۔ مگر شرک کا وہم ہوتا ہے۔ اس سے اس کا اللہ کے نام سمجھائے جاتا ہے اور اس کو غلط کے وہم سے بچائیں۔

لہ کفر و شرک نہیں؛ ہاں ان کے وہم پیدا کرنے کا لگتا ہو گا، اس سے بچانا چاہئے۔ روک دینا چاہئے تاکہ شرک والوں کی مشہدت سے بھی بچایا جائے۔

لہ بے شک سب عمل خیزی سے ہی ثواب دیتے جاتے ہیں۔ حدیث ہے وہ شرک کے تریب بھی جانے سے بچاتے ہیں، یہ ثواب بھاگام ہے۔

لہ کہ وہ ان کفر و شرک کی مدورتوں سے بچا ہوا ہر جیبک اسکی طرف سے شرک یا گناہ کی صورت نہ ہو بلکہ نہ کی جائے، ہاں اگر ماحول شرک و کفر اور لٹپول کی صورت تو کام پر توثیبہت اور سند جواز بننے کے خلاف کوئی تذیرہ نہیں جائے۔ ہم نے نیک گان جیسے حدیث میں مسلمانوں کے سافنے نیک گان رکھنے کو فرمایا ہے، لیکن وہی کوئی دوسری بات نہ ہو جو شرعی دلیل بن جائے۔

لہ کہ پکارنے میں کیا سمجھتا ہے اور مانگتے ہیں کیا۔

لہ اگر اصلاح کو وہ نہ مانسے یا زبانی مان کر عمل نہ کرے یا کبھی کبھی خلاف کرے یا اس کو دیکھ کر دوسرا سے بگردیں تھے تاکہ وہ مسلمان رہ سکے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بیشہ کو جسم کا ایندھن نہ بن سکے زگ، ہمیں بتا دیکھ کے تھے بھیک نہیں ہوتا ممکن ہے، وہ صیغہ دیسا کے مخفے سے کتنا ہو۔ پوری تحقیق کے بعد ہمیں دو کام صحیح جو گا۔

اگر کفر و شرک اور گناہ بنانے کے بعد ضد ہو جب۔ اس کے افراد یا دلیل سے یہ مسلم ہو تو رکنے کی برکت شش لازم ہے۔

ایک بات کہ وہ بھی یہیت جگہ کار آمد ہے۔ یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل فاسد میں بنتلا ہو اور یہ قرآن تو یہ سے قید نہیں ہو کر یہ شخص اصل عمل کو ہرگز ترک نہ کریگا تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے ترک مگر مصلحت یوں ہے کہ اولاً تو نہ اکرنے والا اگر سمجھدار ہو تو اس پر حسن طن کیا جاوے اور حجۃ مغض غامی جاہل ہو تو اس سے دریافت کیا جائے، اگر اس کے عقیدے میں عمل کی اجازت دیکر اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کروئے کہ اس میں امید منع کرنا مصلحت ہو، بالکل روک دیا جائے لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا۔

لہ خلاف شریعت  
لہ جنگدا اور دلی دشمنی پر کبھی مجبور نہ کریں، مسلم بندادیں۔  
لہ میکار اور دھیلی باغ والا۔  
لہ کہ ایک مسلم بجائی نہ کو اسلام سے بنت دیکھ کر بالکل خاموش رہیں، یہ بجائی کے حق اور محبت و شفقت کے خلاف ہے۔

لہ یعنی اس سے چشم پوشی کر کے اس وقت خرابی کی اصلاح کر دیں تاکہ خلاف شرع پر ضاربی  
بھی نہ ہو۔ اور اس سے اصلاح کی ترقی بھی میرجاہتے۔ کیونکہ ایسے موقع پر حب فد و عناد  
کا دو دوڑہ ہو امر بالمعروف واجب نہیں رہتا۔ ۴۷ہ زیادہ غالب،  
کہ اپنے رب کے داشت کی طرف حکمت اور عده نفعیت سے دعوت ہو، یہ حضور کو حکم ہوا تھی تو ہم پر بھی یہ کم  
بے اسٹے تبیر سے کام کیا جائے ذکر لمحہ مار دیا جائے۔ پھر دانانہ اور خیرخواہی کے طریقہ پر ہو۔

لہ جاہلیت کی رسولوں کے چھیٹے ہوئے ہونے کے وقت  
لہ کہ شراب کے حرام ہونے میں اول پہاڑ پھر سخت اور پھر بہت سخت حکم آیا تھا اس سے یہ  
نکل سکتا ہے کہ اول بات بھی پھر سخت کہی جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ حکم احکام کے بنانے میں  
ہے، دو پھر زیادہ اور سب بتائیں، یہ تو بعض حکوم کا چھپانا ہو گا۔ (باتی صفحہ ۶۳ پر دیکھئے)

مشرب اس فقیر کا یہ ہے کہ ایسی ندا میرا متحول نہیں رہا۔ ہاں بعض اشارے  
یہ ذوق و شوق سے صیغہ ندا <sup>لہ</sup> برتاؤ گیا۔ اور عملدر آمد وہی رکھنا چاہئے جو اپر  
تین مسلوں میں مذکور ہوا۔

---

لہ کیونکہ شرک دکھر و بدعت والوں کی مشاہد اور سند جواز بننے کا خطرہ ہے گوئے مکرمہ میں  
اسے لوگ نہ ہوں مگر دوسرا جگہ بھی بات پہنچے گی۔

لہ کیونکہ ہاں پکارنا بھی مقصود نہیں۔ شرق و مبتت یا رنج و حسرت کا انہار ہے جیسے شروع  
یہ قسم جائز بیان کی گئی ہے۔

لے کہ نہ کرنے والوں کا فعل اتباع سفت اور شرک وہم شرک سے بجا تو سول غلط کی مشاہد اور  
سند جواز بننے سے علیحدگی پر محروم ہوا اور کرنے والوں میں احتیل عذر غلبہ حال اور محبری کا درکھیں جب  
تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے اس کو ہاتھ سے نہ دیں۔

[رث ص ۴۳ سے آگے] اسلام کے محلہ ہر بچے کے بعد یہ نہیں رہا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن سلام نے  
یہ سوچا تھا کہ یہودی اور کشتیں کھاتے ہم بھی نہ کھائیں تو کیا ہرج ہے کوئی زم داجب تو نہیں  
ہے۔ اس پر عناب نازل ہوا تھا **أَدْخُلُوا فِي التَّلِمِ كَافَةً** (پر سے اسلام داخل ہو جاؤ) اور پھر اس کو سلطان  
کام نزیبا گیا ہے اور حضور کو حکم ہے بنین ما انتز الیک (تمدن کیجئے تمام اس کی جو آپ پر نازل کیا ہوئے)  
حضرت کو بھی نازل شدہ احکام میں سے کچھ سنبھانا اور کچھ روک دینا جائز نہ تھا۔ مگر کتاب دالی آیت سے  
یہ حضرت ثابت ہے کہ عذر تدیر کرنے ضروری ہے۔ اور یہ میں یہ ترمی چاہئے۔

# پاپوں وال مسئلہ جماعت شایعہ کا

یہ مسئلہ سلفؑ سے مختلف نبیہ ہے۔ امام ابو حیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت دام البریفؓ سے بعض شرائط کے ساتھ چوڑا متفقہ ہے۔ اور ترجیح و تصحیح دونوں جائز ہو جائے۔ اس میں بھی گفتگو کو طول دینا نازیبا ہے۔ کیونکہ جانین کر کنچالش عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قول میں یوں تطبیق دی جاوے کہ اگر جماعت

لئے علامہ شایعی راجح و ضعی یہ اسی کو قرار دیا ہے کہ جس مسجد میں اکثر نمازی متعین ہوں۔ کم کم دوسرے آتے جاتے رہتے ہوں دہاں تو دوسری جماعت حد مسجد کے اندر مکروہ ہے اور جیاں اکثر نمازی غیر متعین ہوں جیسے ایشتوں بڑے شہروں کے چورا ہوں اور بیش اثابیں کی مسجدوں دہاں دوسری جماعتیں حد مسجد میں جائیں۔ لہذا اکثر نمازی متعین والی مسجد میں جماعت شایعہ بدلنے کے تواب کے لئے کا سبب ہے۔

سلسلہ کا بہت تحریکی فقہ میں نقل ہے۔ اور فتح العائنے اس کو ظاہر الردایت یعنی امام ابو حیفہ امام البریفیف اور امام محمد بن زیاد کا مذہب تاریخ دیا ہے۔ شایعی میں حدیث نقل ہے۔ کہ صحابہ الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ کعبہ شریف میں کئی جماعت بالاتفاق مکروہ ہمیں (شایعی)

گئے یہاں سے ایک روایت ہے ذہب نہیں۔ جو ظاہر الردایت کے مقابلے میں راجح نہیں مرحوم قرار پاتی ہے۔ فارسی رسالہ القطوف الدائیہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مولانا رشید احمد صاحب کا رسالہ اس مسئلہ میں بڑا مفضل ہے اور دو ترجیح بھی چھپا ہوا ہے۔

۵۔ بہر حال ایک امام کی روایت تو وہ ہے کوئی غیر راجح پر فتوی دینا درست نہیں۔ مگر اس بیدینی کے دوسرے اگر کوئی ضعیف قول پر بھی عمل کرے۔ تو سخت گرفت سے تو بچ سکتا ہے لہذا اس پر طعن نہ چاہئے خود کرنا نہ چاہئے۔

۶۔ ایک کو دوسرے کے مطابق کیا جائے۔ علامہ شایعی سے دونوں کی صورت اور عمر من سچھی ہے کہ اکثر نمازی متعین ہوں تو مکروہ ودنہ جائز ہے۔

اولیٰ کا ہلی اورستی سے فوت ہو گئی ہے۔ اور جماعتِ شایر میں شرکت سے منع کرنا، اس شخص کے لئے موجب زجر و تنبیہ ہو گا تو اس کیلئے جماعتِ شایر کی کرتا ہے کا حکم کیا جادے اور قائلین پاکراہت کی تقلیل لفظی جماعتِ اولیٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور اگر کسی معقول عذر سے یہی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے یا کوئی شخص ایسا لائے باالی ہے کہ جماعت

ام رکنے اور تنبیہ کرنے کا ذریعہ ہو

۳۴ مکروہ بخشنے والوں کا یہ علت بیان کرنا کہ جماعتِ شایر کے جزا سے پہلی جماعت کم ہو جائیں گے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسری جماعت کو مکروہ فرار دینا سستی و کامی کو روکدے کہ پہلی جماعت کم نہ ہو پائے تو مکروہ ہے۔ ایسی نہ ہو تو مکروہ نہیں میکن اگر یہ علت نہ ہو صرف حکمت ہو تو دوسری پاٹ سبے، کیونکہ اصل بدار مسائل میں نقل پر برداشت اور حدیث تشریف میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھگت معاشرت کرنے تشریف سے تھے و اپنی تشریف لائے تو جماعتِ موجہی بھتی جخسوں ساتھیوں کے ساتھ کھرپر جماعت کی اور باوجو و بھگت مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب پچاس بزار ہے۔ پھر بھی مسجد کو چھوڑ کر کھرپر پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا خالل آساندید ہے جس پر یہ میں فزار گنا تواب ترک فرمایا گیا اگر مسجد میں جماعت دوسری مکروہ تحریکی نہ ہوئی تو حضور پھر میں بزار کے ثواب کو ترک نہ فرماتے۔ لہذا جائزہ طریقہ یہی ہے کہ مسجد یعنی جو حصہ نماز کے لئے خاص ہے اس میں دوسری جماعت نہ کی جائے مسجد سے باہر کر کی جائے تو کوئی مضافات نہیں، چھت و ارضہ و صحن کے علاوہ سو دریوں میں وضو خانہ غسل خانہ کی چھت یا دوسری ضرورت کی جگہ درست ہے یہی حنفی یہود اماموں کا مذہب اور اس حدیث کے مطابق ہے مگر امام ابو یوسف سے ایک روایت جو ارد بھی ہے۔ گوراج اور مفتی برہنیں پوچھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والے کو مطریون نہ کرنا چاہتے کہ زمانہ کم شوق کافی ہے۔ اور جماعت کم مونا تو مسلمانوں سے کامی و سستی سے سی برتاؤ ہے، جاں بچج کر کوئی نہیں کر سکتا جب ہر ایک کو معلوم ہو گا کہ دوسری جماعت یہی جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور مسجد کا بھی نہ سستی پیدا نہ ہے اخوضاً اس زمانہ میں فیزادہ ہو گا جماعت اصلی کم ہو جو بھی جماعت کم کرنے والی مربات مکروہ تحریکی ہوئی ہے۔

۳۵ گوراج دوسری جماعت مسجد کے اندھا کش نمازی مدعین کرنے میں مکروہ تحریکی ہو گی۔ اور مکروہ تحریکی بھی ترک و احباب ہے۔ اور تنہا پڑھنے میں ترک جماعت ہے۔ اور جماعت گو حنفیہ کے نزدیک ملت و کوہ ہے، مگر دوسرے اماموں کے نزدیک واحبیہ ہے۔ دونوں برابر ہیں جماعت کے (باتی حصے پر) دیکھتے۔

شانیہ سے منع کرنا اُسکے حق میں کچھ بھی موجہ پڑھنے زجر نہ ہوگا، بلکہ تنہا پڑھنے کو غلیظت سمجھے گا کہ جلدی سے چارٹر کریں مار کر رخصت ہوگا تو ایسے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی قدر تعلیم و اطہان سے اداکبے گا،

عمل درآمد اس مشکلے میں بھی ایسا ہی رکھنا چاہئے کہ ہر فریض دوسرے فریض کو عمل بالدلیل کی وجہ سے محبوب رکھے اور جہاں جماعت شانیہ نہ ہوتی ہو وہاں تنہا پڑھ لے، خواہ نخواہ جماعت نہ کرے۔ اور جہاں ہوتی ہو وہاں شریک

لہ روکنے کا سبب سستی اور غفتت کے۔

لہ کے جماعت شانیہ بھی مکروہ تحریک اور جلدی جلدی متعالیہ اور کان نماز پڑھنا بھی کرو وہ تحریکی تو دونوں برابر رہے کیا خواہ ہٹو، البتہ اگر مسجد سے باہر جماعت ہو تو دونوں سے بیرون سکے گا، لہ سنگال سنگال کر ادا کرنا کہ بر عقوب مفہوم پھر پھر جائے، حکت بندہ جائے جو پر نماز میں داحیب ہے یعنی اگر تعلیم اور کان اور اطہان سے پڑھنے کی عادت ہے۔ تو پھر اس کا تباہ کریم مکروہ آر جاتا رہا، اور جماعت شانیہ کا مکروہ قائم ہے گا۔ پھر ورنہ کام بیار کے نہیں ہون گے۔ تنہا پڑھنا ہی افضل ہو گا، جماعت کے ثواب سے محدودی غفتت کی سزا ہو گی جماعت کرنا ہر قتوں اس حصہ سے جو نماز کے لئے خاص یعنی مسجد شرعی سے باہر متعلقات مسجد میں یا دوسری جگہ ہر تو مسجد کے ثواب سے محدود مکا اس غفتت کی سزا ہو گی۔

لہ دلیل سے عمل کرنے کی وجہ سے گر ایک کی دلیل تو ہی، ایک ضعیف بڑی مگبے سند سے تغییرت ہے۔  
لہ مہابا نکے۔

لہ کیونکہ خواہ نخواہ مکروہ تحریکی کا اوت کا ب ہو گا۔

(آخر صفحہ ۶۶ سے آگے) اور نادر سے دنیا کے زیادہ ہیں۔ اور اگر باہر جماعت کر لی تو اس کا ثواب بھی طلا کراہت تحریکی سے بچا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے موافق بھی ہو گیا۔

لے بے پروا بے اہتمام ۶

ہر جا وے مخالفت نہ کرے۔  
 یہ پانچ مشکلے تو علی تھے اب دو منٹے علمی باقی رہ گئے ہیں وہ مرقوم ہیں۔

---

اے بشر طیکہ یہ مقتداء نہ ہو کہ اس کے شرکت کرنے سے اس کے مکروہ نہ ہونے پر و لیل نہ لیلی جائے  
 ورنہ بھراں کا شرکیک ہونا سند بلا کراہست نماز ہونے کی بن جائے گا اور کراہست کا گناہ ہا  
 وقت کا بھی اور بعد کا اس پر بھی ہرگز اور مقتداء نہ ہونے میں اگر شرکت ہوتی میں کری اور بہت جلت  
 کی شرکت کی نہ کی۔ فرشتہ کت و کراہست تو نہ ہوگی۔ لوگوں کے ہعد سے پہنچ کے گا اگر اس نفے  
 ہونے کا خوف ہو۔ ورنہ ہمکت کی بات یہی ہے کہ حضور کی فسرح مسجد سے باہر جماعت کرے۔ ورنہ  
 نہماں پڑھے۔

# چھپا ساتوا مسلکہ امکان نظر و امکان کذب کا

ان دونوں مسلکوں کی تحقیق کا سمجھنا موقع علم حقائق پر ہے اور ازب دقيق ہے۔ مگر مجملاً دو چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہئے۔ ایک اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے سُبْحَانَ اللَّهِ عَسَمَّا يَصْفُونَ ۝ یعنی اللہ

اے یعنی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپ کے جیسا ان اور کوئی ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ ٹھہ حق تعالیٰ کے لئے کذب یعنی واقعہ کے خلاف کہ دینا ممکن ہے یا نہیں۔ لیکن جب ان دونوں پر غور کیا جانا ہے تو مطلب حاضر یہ نکل لہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے یا تمہیں کہ حضور جیسا اور کوئی پیدا کر سکیں؟ گوئیں کریں گے اور کیا خدا تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے یا نہیں کہ خلاف واقعہ کے کوئی بات بکریں گوئیں کریں گے۔ یہ بات تو ساری امت کا اعتیاد ہے کہ حضور جیسا شخص قیامت تک کبھی نہیں آتے گا۔ اسادوسرا پیدا ہی نہ ہو گا، اور حق تعالیٰ کبھی کذب یعنی واقعہ کے خلاف نہیں فرمائیں گے۔ سوال اس کا ہے کہ یہ دونوں باتیں ممکن ہیں یا نہیں یعنی حق تعالیٰ کو ان دونوں پر قدرت بھی ہے یا نہیں کہ قدرت تو ہو مگر ایسا اپنے سمول و عادت اور وعدہ کے خلاف ہونے سے یا اس کے عیب ہونے کے وجہ سے نہیں کریں گے۔ یا بالکل ان پر قدرت نہیں۔ ان سے بالکل عاجز ہیں۔

۳۷ تفصیل سے عقلی اور نقلي ولیسوں سے اس کو حل کرنا۔

ٹھہ حقیقتوں کے علم پر موقوف ہے بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، جس کے حاصل ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک اُدنیٰ درجہ کی جو علوم خاہی اور ان کے فروعی فنون کی مہارت کا مل رہے اور دوسری اعلیٰ درجہ کہ ہے وہ علم لدنی ہے جو حق تعالیٰ کی نسبت کا علم میسٹر ہونے سے دل پر غیبی طریقے سے سب کا سب کھل جاتا ہے اور یہ دونوں درجے ہر شخص کو میسٹر نہیں آتے، بلکہ یہ راستے ماہروں اور کاموں کو حاصل ہوتے ہیں ہے اور یہ باریک اور گھر سے علم کی بات یہ ہے کہ علم یا بے نسبت لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اور مگر اسی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے کم علم لوگوں کو اس کی تفتیش میں پڑنا خطرہ سے خالی نہیں۔

۴۰ تھہ مختصر طریقہ سے!

تعالیٰ تمام عیوب دلائل سے مثل خلف القول و اخبار غیر واقع وغیرہما ان سب سے پاک ہے۔ رہایت تحقیق کرنا کہ کون چیز مفہوم شے میں داخل ہے کہ اس پر قادر کہا جاوے اور کون چیز عیوب دلائل سے ہے کہ اس سے تبریز کیا ہو جاوے سو جس جگہ دلائل متعارض ہوں وہاں اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں بلکہ لوحہ نازک ہونے ایسے مسائل کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قیل و قال اور زیادہ تفصیل کرنا عجیب نہیں کہ منع ہو۔ دیکھئے تقدیر کا مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت ممانعت فرمائی۔ سواس مانعت کی علت یہی وقت داشکال ہے۔ سوان دو مسلوں میں بھی جب لوحہ تعارض ظاہری اولہ غقلیہ ولقلیہ کے استکال شدید ہے، تو

لہ اپنے قول کے خلاف کرتا کہ جیسے حضور کو خاتم النبیین فرمائی، اب اور خاتم النبیین ہرگما تو حضور خاتم نہ ہے یہ پہلے ارشاد کے خلاف ہوگا۔

لہ دلائل کے خلاف بات کہنا، کذب یا محوٹ کہنا، یا ان کے سوا اور کوئی عیوب نفس کی بات قدرت ہے کیا کیا شے کہنا ہے۔ جس پر الل تعالیٰ کو قدرت ہے کیا کیا نہیں کہلا ماکہ اس پر قدرت نہ ہو تو شے مصدر معنی مفعول ہے جس پر مشیت الہی وارد ہو تمام مکنات و موجودات وغیرہ ہیں۔ لکھے بڑی روایک بیان کرنا چاہئے:

و دلائل ایک دوسرے کے خلاف ہوں،  
لہ ذمہ دار نہیں، یہ بمارے ذمہ نہیں ہے۔  
کہ بحث و گفتگو

لہ طرح طرح کے اشکال جمع ہونے کی جگہ معا

لہ عقلی ولقلی دلائل کے ایک دوسری کے مخالف ہونے کی وجہ سے جو ظاہر میں مخالف ہیں حقیقت اللہ مگر اس مخفرا جمالی بات ہیں نہ کوئی دقت نہ اشکال۔ عام مسلمانوں کو (باقی ص) پر دیکھئے

قیل و قال کرنے کی کیسے اجازت ہو گی، اسی مضمون کا ایک خواب فیقر کے ایک متعلق نے دیکھا۔ جس کو فقیر نے بہت پسند کیا،

اے گفتگو، بحث و مباحثہ  
کہ کہ ایسی بحثوں میں نہ اجاءے جس میں دقت ہوا شکان ہوا در آدمی عالم ہو،

(لوز صفحہ سے آگے) بھی ان دونوں آیتوں والے عقیدے رکھنے ضروری ہیں کہ جب الل تعالیٰ کی بے انتہا قدرت ہر چیز پر ہے تو ان دونوں پر بھی ہے اور الل تعالیٰ پر عیوب سے پاک ہیں، کذب یعنی واقعہ کے خلاف بھی کبھی نہیں کہیں گے۔ سچی ہی بات فرمائیں گے اور آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اب کوئی بھی پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے خلاف نہیں کہیں گے۔ گوئی قدرت ہو کر یہ کرنا عیوب ہے۔ اور ان دونوں حکموں میں اختلاف نہ سمجھا جائے بات یہ ہے کہ کسی کام یا بات پر قدرت ہوا لگ چڑھے اور اس کا کرنا الگ چڑھے، قدرت ہونے کے لیے لازم نہیں کہ اس کو کیا بھی جائے، اگر کرنے میں عیوب یا نقش بوجگا نہیں کریں گے، کہ ان سے پاک ہیں مگر عاجز نہیں ہوں گے۔ کیونکہ عاجز ہونا بھی عیوب ہے، وہ بڑی عیوب سے پاک ہیں۔ سہولت کیلئے یوں سمجھئے کہ ہر انسان کو چوری داکم غصب ہے اپنے قتل کے خلاف کرتا کہ جیسے حضور کو خاتم النبیین فرمایا، اب اور خاتم النبیین ہرگما تو حضور خاتم نہ ہے یہ پہلے ارشاد کے خلاف ہوگا۔

لہ دلائل کے خلاف بات کہنا، کذب یا محوٹ کہنا، یا ان کے سوا اور کوئی عیوب نفس کی بات قدرت ہے کیا کیا شے کہنا ہے۔ جس پر الل تعالیٰ کو قدرت ہے کیا کیا نہیں کہلا ماکہ اس پر قدرت نہ ہو تو شے مصدر معنی مفعول ہے جس پر مشیت الہی وارد ہو تمام مکنات و موجودات وغیرہ ہیں۔

لکھے بڑی روایک بیان کرنا چاہئے:

و دلائل ایک دوسرے کے خلاف ہوں،  
لہ ذمہ دار نہیں، یہ بمارے ذمہ نہیں ہے۔  
کہ بحث و گفتگو

لہ طرح طرح کے اشکال جمع ہونے کی جگہ معا

لہ باریکی  
لہ عقلی ولقلی دلائل کے ایک دوسری کے مخالف ہونے کی وجہ سے جو ظاہر میں مخالف ہیں حقیقت اللہ مگر اس مخفرا جمالی بات ہیں نہ کوئی دقت نہ اشکال۔ عام مسلمانوں کو (باقی ص) پر دیکھئے

لہ غلطی اس سے ہوتی ہے کہ لوگ قدرت ہونے کو کام کا کرنا قرار دے لیتے ہیں۔ یہ  
کھلی غلطی ہے۔ دوسرے برشخض کو قتل کرنے کی قدرت زنا کی قدرت چوری کی قدرت اگر یہ قدرت  
ہے بحث و گفتگو

اس سے بہتر کوئی عملدرآمد نہیں، اور جو طبع آزمائی کے لئے گفتگو  
ہی کرنا ضروری ہے تو زبانی خلوت میں ہو اور اگر تحریر کی حاجت ہو تو  
خط کافی ہے نہ کہ رسالے اور کتابیں اور اگر اسی کا شوق ہے،  
تو بالتفصیل سکوت ہی ضروری ہے۔ تمام ہوا بحمد اللہ جو صحیح لکھنا تھا۔

## وصیت

اور اس تمام تحقیق کے بعد ہبھی فقر کی یہ وصیت ہے کہ ظنیات میں اپنے  
علم و تحقیق پر ٹوپ نہ کریں۔ سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم مہر  
خشوع سے پڑھا کریں اور ہر نماز کے بعد رَبَّنَا لَاتُرْسُ قُلُوبُنَا مِرْضٰ کرو عا  
کیا کریں اور اپنے اوقاتِ معاش و معاد کے ضروری کاموں میں خصوص تر کیہے نفس و  
تصفیہ باطن میں صرف کریں اور اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں خصوص عزیزی ہو لوئی  
رشید احمد صاحب کے وجود با برکت کو ہندستان میں غنیمت کریں و نعمتِ عظیمی سمجھ کر

اچھے گمان کی باتوں میں یا سنتی سنتی میں؛  
اچھے بھروسہ کریں پوری تحقیق شرعی کے بغیر حکم نہ لکھیں۔

اے کلبیں اور پر کا اجتماعی عقیدہ دونوں باتوں کا رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت

رکھتے ہیں مگر جو عیب و نقص ہر دوہ کرتے ہیں۔ اور پر عیب سے پاک ہیں، عاجز ہونا بھی عیب ہے

اس سے بھی یہ کہ اور عیب والی بات کرنے بھی عیب ہے۔ اس سے بھی پاک اور قدرت رکھنا کمال

ہے وہ ہر کمال رکھتے ہیں ہر قدرت بھی رکھتے ہیں۔

اچھے حرف ایک معین بات جس کے سواد و سیری کسی بات کی کنجائش نہیں ان متلوں میں خاموش  
رہنا بھی ہے ورنہ کم علمی کی وجہ سے وہ غلطیبوں اور مگرا ہمیں کاشکا رہ جاتیں گے اور محجب نہیں  
کہ خدا تعالیٰ پر عیب لگا کرایاں سے بھی خالی ہو جائیں۔

اچھے یعنی پانچ علی اور دو علی متلوں پر جو لکھنا تھا، وہ بحمد اللہ تمام ہو گیا، اب آگے ایک  
وصیت اور مشنوی مولانا روم کے چند اشعار کی کہ کرسالہ ختم کر دیا جائے گا۔ پورا رسالہ  
اللہ اصحاب پر ختم ہونا بے لعجن چاہئے دلوں نے وصیت اور اشعار جھوڑ دیتے اور رسالہ  
ناقص کر دیا ہے ۱۸۹۶ء کے طبع شدہ نسخہ اور کلیات امدادیہ سے اس کے بعد  
کو درج کیا جاتا ہے:

کے عربی میں جمع شدہ نہایت لا جواب ہے۔

ان سے فوض و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب موصوف جامن کمالات ظاہری و باطنی کے ہیں، اور ان کی تحقیقات عرض تلہیت کی راہ سے ہیں ہرگز اسمین شائیہ نفسمانیت نہیں۔ یہ وعیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے، اور جو موافق اور معتقد ہیں، ان کو چاہئے کہ مولوی صاحب کی مجلس میں ایسے قصتوں کا تذکرہ نہ کریں اور اپنے جھگڑوں میں ان کو شرکیک نہ کیا کریں، اور سب پر لازم ہے کہ مفت کی بحث و تکرار میں عمر عزیز کو تلف نہ کریں کہ یہ

حباب ہے محبوب حقیقی سے ۶  
چہ خوش گفت ہبہلول فرخندہ خو ۷ جو بگذشت بر عارف جنگ جو  
گرین مدعی دوست بشناختے ۸ پہ پیکار دشمن نہ پرداختے  
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ۹

مہر

محمد امداد اللہ  
چشتی فاروقی

فقط

لہ ئا ہری و باطنی نیوض و برکتیں دلوں کی روشنی دلایت کے درجے  
لے نفس کی خواہش سما میل جھی نہیں۔

لہ کہ فلاں یوں کہتا ہے بلکہ اپنی بُری عادات پیش کر کر کے اصلاح  
گرانی چاہئے رجو اصل تقصیص صدریقت کا اور حقیقی منشاء پے آقوی کا، عمرہ عادافت حاصل کریں تو کمال ہے  
لہ بحث کرنے میں عرفناک ہوتی ہے ذکر میں یہ وقت گئے تو بہت کام بنے پھر یہ کام ملا کلبے دھجی  
بات بُل تحقیق کے لئے ذکر غنہ دفاد کے لئے۔

لہ حضرت ہبہلول ۱۰ بارک عادتوں والے بزرگ نے حبیب وہ کسی اراد جھگڑے والے صوفی پر گزارے  
نہتے، کیا اچھی بات فرمائی۔  
لہ اگر یہ محبت الہی کا و مریدار دوست کو ہی ان لیت تو دشمن سے لدائی حجگڑے میں شکوہ نہ ہوتا، کیونکہ  
اتسی دیری غفلت کہیں برداشت نہ ہو سکتی۔

## اشعار ثنوی معنوی درمیں احتلاف از حقیقت ناشاسی

پیل اندر خانہ تاریک بود عرغہ را آوردہ بوondش ہندو  
از برائے ویدنش مردم بے اندر ان ظلمت ہمی شدہ کے  
ویدنش با چشم چوں ممکن نبود اندر ان تاریکیش کفت می بسود  
آن یکے را کف بجز طوم با وقار گفت، چوں تاد دانش نہاد  
آن یکے را دست برگوشش رسید آں بروچوں با دیزین شد پدید  
اکھ یکے را کف چو بربالیش بسود گفت شکل سپیل دیدم چون عمود

لہ حقیقت نہ معلوم کر سکتے کی وجہ سے اختلافات ہونے کی تسلیں مہلاناروچی کے اشعار  
منزی معزی سے یعنی عام طور سے اختلاف حقیقت نہ معلوم ہونے سے ہوتے ہیں۔ اگر باطنی بصیرت  
حاصل ہو اور سب مسائل کی حقیقت روشن ہو جائے۔ جیسے کہ اس مثال میں ہے تو اختلاف و ورقہ دو داروں  
ہے۔

لہ ایک اتحی ایک اندر ہرے گھریں تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے ہندوستانی لوگ اُسے لائے تھے  
لہ اس کے دیکھنے کے لئے بہت سے آدمی تھے۔ ہر ایک اسی اندر ہرے ہیں پیچے پیچے گی۔  
لہ جب کہ ۲۳ نکھ سے دیکھیں تو ممکن نہ تھا، اس اندر ہرے میں ہی اس پر ہاتھ پھیرتا  
تھا، ٹھوڑتا تھا،

لہ ان میں سے ایک کا ہاتھ سوڈ پر جا پڑا، تو برلا اس کی ذات تو پر نام کی طرح ہے۔  
لہ ایک کا ہاتھ اس کے کان پر پیچے گیا تو اتحی اس پر پچھے کی طرح نہ ہو جوا۔  
لہ ایک کا ہاتھ جب اس کے پاؤں پر چلا تو کہنے لگا۔ میں نے ہاتھ کی مشکل سترن جیسی  
دیکھی ہے۔

## تمہر وصیت

خلفائے اعظم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی و حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (بانی دارالعلوم دیوبند) کی پریوی کا حکم حضرت قطب عالم حاجی صاحب قدس سرہ نے اپنی کتاب ضیاء القلوب کے آخر میں فرمایا ہے:

و نیز ہر کس کہ ازیں فقیر محبت و عقیدت دار اوت دار دلوی رشید احمد صاحب سلمہ دارلوی محمد قاسم احباب سلمہ را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اند بجا تے من را فهم اور اقتبلکہ بحدارج فرق از من شمار اند اگرچہ بنطا ہر معامل برعکس شد کہ اوشان بجائے من و من بمقام اوشان شدم۔ و صحبت ایشان را غنیمت داند کہ ایسچنیں کسان دریں زمان نیا باب و صحبت ایشان فیضیاب پورہ با مشند و طریق سلوک اند و از خدمت با برکت ایشان فیضیاب پورہ با مشند و طریق سلوک کر دریں رسالہ نوشتہ شد از نظر شان تحصیل نمایند الشاعر اللہ تعالیٰ لے بہرہ نخواہند ماند۔

اللہ تعالیٰ در عمر شان برکت وہاد و از تمامی نہمائے عرفانی و کمالات فربیت خود مشرف گرداناد و بمراتبات عالیات رسانا و از نور ہدایت شان عالم را نسیر گرداناد و تاقیامت قیض اوشان جاری دار اد بحر منم النبی و آله الامجاد۔ صفحہ ۷۵

ترجمہ

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اس فقیر سے محبت عقیدت اور پریوی

آن یکے پر پشت او بہاد دست فہم آن می کرد ہر جا می تنید از نظر گم گفت شان بد مختلف آن یکے والشن لقب داد آن الف در کف ہر کس اگر شمسے بدے اختلاف از گفت شان بُون شدے چشم حسن ہمچون کفت دست است وسی نیست کفت را برہمہ آن دسترس!

(رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ)

لہ ایک نے اس کی کم بر جو ہاتھ رکھا، بلکہ یہ ہمچنی تو خود ایک تخت کی ماند ہے۔

لہ ایسے ہی ایک ایک اس کے ایک ایک جز پر حسب پہنچا۔ اس کو وہ سمجھتا، اور ہر جگہ نہتا اکر دتا تھا۔

لہ نظر کی جگہ کی وجہ سے ان کی بات الگ الگ محتی، کہ ایک دال کہتا تھا۔ ایک الف، یعنی کوئی کچھ کوئی کچھ (ہر ایک کی نظر ایک ایک جگہ پر می محتی) لہ اگر ہر شخص کے ہاتھ میں ایک ایک شہر ہوتی، تو ان کی گفتگو سے اختلاف با پر ہر جاناب یعنی ایسے ہی اگر لوگوں کو باطنی بصیرت حاصل ہو تو ہر شخص غلو اور غلط نہیں سے پر کر جن بات پر پہنچ جائیں۔ لہذا باطن کی آنکھ سب کو حد بُون کرنے چاہئے۔

لہ یہ حصہ آنکھ بھی ہاتھ کی ہتھیلی کی ہی طرح ہے، فقط ہتھیلی کی بھی پورے ہمچنی پر پہنچ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ناظری آنکھ کی حقیقتون تک پہنچ نہیں ہوتی۔ آنکھ بالتنی بصیرت کی ہی حقیقت سکھ پہنچ جاتی ہے۔ وہ ہر غلو سے پاک اور ہر حسیز کو اس کی حقیقت اور مرتبہ پر کر سکتی، یہ نہ ہو تو ان لوگوں کی نظر حصی ہے۔ کوئی کسی جز کو پر ا دین سمجھ بیٹھتا ہے کوئی کسی کو

کا تعلق رکھتے ہیں، وہ مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو کہ تمام علوم ظاہری و باطنی کے کمالات کے جامع ہیں بجا نے مجھ را فتح کے بلکہ مجھ سے بہت درجے اور شمار کریں، اگرچہ ظاہریں معاملہ آس کا اللہ ہر دا ہے کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہو گیا ہوں (یعنی وہ مرید اور میں پسیہ ہوں)

اور ان کی صحبت کو غنیمت جائیں کہ اس زمانہ میں ایسے لوگ نایاب ہیں اور ان کی بارکت خدمت سے فیض حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور سلوک کاظمیہ جو اس رسالہ (فیاء القلوب) میں لکھا گیا ہے۔ ان کی نجگانی میں حاصل کریں، انشاء اللہ محروم نہ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں کی عمر میں برکت دیں اور تمام عرفانی نعمتوں اور اپنے قربے کمالاً سے مشرف فرمائیں۔ اور اپنے اُپنے مرتبوں پر پہنچائیں۔ اور ان کی ہدایت کے نور سے سارے عالم کو نور آنی بنادیں، اور قیامت تک ان

لئے اس سے ظاہری سجادگی و جانشینی نہ کجھی جلدے نہ ان درنوں بزرگوں میں سے کوئی صاحب بھی حضرت قطبؑ کی خانقاہ میں قیام پذیر ہوتے، نہ کسی نے ان کو سجادہ یا جانشین قرار دیا نہ ہمارے بزرگوں میں یہ رسم ہے کہ خواہ مخواہ سجادہ نشین تائیں اہل بورہ جو گڑی باندھ کر بھاگیں۔ چنانچہ حضرت قطب عالم حاجی حنفی کے پیر میا بنی نور محمد صاحب تھانے بھون کے مشرق میں تین میل ناصلہ پر قصبه درباری میں قیام فرمادے۔ مگر نہ حضرت حاجی صاحب نے سجادگی و جانشینی کے لئے وہاں قیام کھانا نہ حضرت حافظ محمد ضامن شہید نے نہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھے یہ تین پیر بھائی اور خلیفہ تھانے بھون ہی رہے نہ بعد میں ان کے خلاف نے یہ مرسم جاری کی۔ بلکہ معنوی جانشینی کمالات ظاہری و باطنی اور خدمت طالبین میں اپنے اپنے ہر لوگوں کے مقابلے میں مفرود ہے لئے الحمد للہ رب العالمین و محبوب قبول ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؓ نے وارد العلوم دیر بند مدرسہ قائم فرمایا جس سے لاکھوں علمائے دین علمی کمالات حاصل کر کے تمام عالم کو متبر کر رہے ہیں۔ سیکڑوں دینی کتب خانے لاکھوں کتابیں اپنی تعلیمات اسلام اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ اور آج جو تمام دنیا کی سیاست کر رہے ہیں وہ گرامی دے رہے ہیں کہ جس قدر علم دیا جاتا ہے ان کے علاقوں میں بے دنیا میں کہیں کے (باتی مٹ پر)

دو قوں کا فیض جاری رکھیں۔ بحترم نبی و آله پاک

(زٹ صفحہ سے آگئے) مسلمانوں میں آتا نہیں ہے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے درس حدیث کے ڈر منونے طبع ہو کر سامنے آچکے ہیں۔ ترمذی شریعت اور بخاری شریعت کے درس کی تقریبیں بے شال علم و معارف کے خزانے میں عجیب عجیب نکات و تفاصیل پر مشتمل ہیں، عربی دان طبق اس فیض حاصل کر دیا ہے۔ اور بہت سے خلفاً سلوکیں کر گئے ہیں جو حضرت مولانا محمد ایاس اور ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب بواسطہ حضرت مولانا خليل احمد شارح ابو الداؤد مشریف آپ کے سلسلہ بھی کے مہندستان پاکستان میں تبلیغی جماعت سے بے شمار لوگوں کی کمایا پڑھ کر اچکے ہیں، اور حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی صاحب جو حضرت قطب عالم حاجی صاحب کے خلیفہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو اپنا بزرگ ترادرست یہ نہ ہے۔ ایک بزرگ تھانیت اور بہت خلف اور دوسرے بہت حضرات علم و عمل کے دیباہار ہے ہیں۔ اور حسب دعا اُمید ہے کہ اُن اللہ تک تائیماً تیام یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

انگریزوں نے بندوقستان پر قبضہ کرنے کے بعد جو اسلام و اسلامیات کو نیت و نابود کرنا چاہا تھا، کتب خانے جلاسے ملنا کو قتل کیا۔ ان بزرگوں کی بیویوں پر بے کہیں ڈاند دین و دینیات اور دیندار ملنے کے لئے ایجمنی کیا۔ ان بزرگوں کی بیویوں پر بے کہیں ڈاند دین و دینیات اور دیندار ملنے سے لے کھوئی علمائے دین علمی کمالات حاصل کر کے تمام عالم کو متبر کر رہے ہیں۔ سیکڑوں دینی کتب خانے لاکھوں کتابیں اپنی تعلیمات اسلام اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ اور آج جو تمام دنیا کی سیاست کر رہے ہیں وہ گرامی دے رہے ہیں کہ جس قدر علم دیا جاتا ہے ان کے علاقوں میں بے دنیا میں کہیں کے (باتی مٹ پر)

## مکتوب مبارک حضرت حاجی صاحب قدسہ

حضرت کی حیات ہی میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ نے "ابراہین القاطع علی ظلام الالوار الساطع" تصنیف وطبع کرائی تھی جس میں تمام بیعتوں کے دلائل کا جوانوار ساطعہ کے مؤلف نے دیئے تھے قلعہ قم فرمایا تھا حضرت حاجی صاحب نے ایک مفترض کے اس کتاب پر چھٹے اعتراضوں کا جواب تحریر فرمایا، جن میں سے دو اعتراض دجواب اس سالہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ درج کئے جاتے ہیں۔ مکتوب مبارک کی سند اور باقی تفصیلات ابراہین القاطع کے آخر سے دیکھی جاسکتی ہیں ان دوجوابوں اور کتاب کی تقریط و تعریف سے بھی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت قدس سرہ کاملاً کیا تھا، آخر "ہفت مسلم" اسی کا اجمال ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ شرح اسی کی موافق نہ ہر کرنے کے لئے پیش کی گئی ہے۔

**نحمد اللہ العلیم القدیر الدیان الذی  
کشف بمحض فضله علی من اصطف امن عباد  
حقائق العلوم والبيان ونصلی ونسلم علی عبادہ الذین اصطفوا لاسیما علی  
شرف الرسل والانبیاء سیدنا مخد المصطفي واللہ واصحابہ التجیا والاقتیا  
اما بعد از فیقار امداد اللہ چشتی فاروقی عقا اللہ بنجدت مرلوی نذری احمد خان  
صاحب بعد سلام تھیہ اسلام آنکہ آپ کا خط آیا، مقصون سے مطلع ہوا۔ ہر جنہ  
کہ بعض وجہ سے عزم تحریر جواب نہ تھا مگر بغرض اصلاح اور توضیح مطلبی اہلین  
فاطحہ بالاختصار کچھ لکھا جاتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نفع پہنچاوے۔ ان اربید**

الا ولا اصلاح ما استطعته وما تو فيقي الا بالله

**جواب اول** واضح ہو کہ امکان کذب کے جد معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالاتفاق مردود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قابل ہر زما باطل ہے اور حکایت ہے۔ نص صریح ومن اصدق من الله حدیثا۔ وَإِن الله لا يختلف المیعاد  
وغیرہما، آیات کے، وہ ذات پاک مقدسہ ہے شایئہ نفس وکذب وغیرہ سے رہا خلاف علماء کا جو دربارہ وقوع عدم وقوع خلاف وعید ہے جس کو صاحب برائیں قاطعہ نے تحریر کیا ہے۔ وہ دراصل کذب نہیں صورت کذب ہے۔ اس کی تحقیق میں طول ہے۔ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے۔ اس کے خلاف پرہیزی قادر ہے اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو، امکان کو وقوع لازم نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی دجه خارجی سے اس کو استحالہ لاحق ہو، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں۔ پس ذہب جمیع محققین اہل اسلام صوفیاتے کرام و علمائے عظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے لیس بوجو شبهات آپ نے وقوع کذب پر منفرع کئے تھے۔ وہ مندرجہ ہو گئے کیونکہ وقوع کا کوئی قابل نہیں۔ یہ مسئلہ وقیق ہے جو امام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں۔ اس کی تحقیقت کے اور اس سے اکثر ابنا تے زمان قاصر ہیں آیات و احادیث کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ایک ایک مثال قرآن و حدیث کی لکھی جاتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری ہے۔ قل هو قادر علی ان یبعث عليکم عذاباً الا یہ۔ اور درسری جگہ فرمایا۔ وَمَا کان اللہ یعذ بھم وانت فیهم الا یہ۔ آیت شانیہ میں لفی وقوع عذاب کا وعدہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کا خلاف ہو تو کذب لازم آئے گا۔ مگر آیت اولیٰ سے اس کا تحت قدرت باری تعالیٰ داخل

ہر نامعلوم بوا پس ثابت ہوا کہ کذب داخل قدرت باری تعالیٰ اجل ولی ہے کیوں نہ ہو، وہ ہو علیٰ کل شئیٰ قدیمہ احادیث کو دیکھئے کہ عشرہ مبشرہ شلاً بالیقین جنتی بارشاد نبوی جو حقیقتہ رحی الہی ہے ہو چکے، پر جو نکہ صحابہؓ کرام جانتے تھے کہ خدا نے پاک محبور نہیں، اس لئے نظر بقدرتہ وجہاں کبر مانی درتے ہی رہے بلکہ خود سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلم الصدراۃ والتسیمات جن کی شان میں یغفرانی اللہ مانقدم من ذنبک و ماتآخر ہے فرماتے رہے۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ مایفعل في

ولابکمد ایکا قال۔ واللہ تعالیٰ بحق الحق وہو یہدی البیلہ

**جواب ثانی** (چونکہ ان کا تعلق برائیں قاطعہ سے نہیں ہے، اس رسالہ سے نہیں، اس لئے درج نہیں کیا جاتا، برائیں کے آخر میں سے دیکھا جاتے)۔

**جواب ثالث** اسی طرح صاحب برائیں قاطعہ نے نفس ذکر میلانہ دکوبیت صلات نہیں کہا۔ قیودات زائدہ محمد بن کعبہ وہم کو کہا ہے۔ اور نہ نفس ذکر و قیام کرنے والوں کو ہندو درواض کھا بلکہ عقیدہ باطلہ پر حکم حرمت و مشابہت روافض وہنڈ کا لگایا جاتے، چنانچہ خود فتویٰ جناب مولوی احمد علی صاحب مرحوم اور مولوی رشید احمد سلمہ میں، یہ امر مصرح موجود ہے کہ نفس ذکر میلانہ دکوبیے باعث حناثت برکات لکھتے ہیں، اور برائیں قاطعہ میں مکر راسن کو ظاہر کیا ہے۔

النصاف شرط ہے۔

**جواب رابع۔ جواب خامس۔ جواب سادس** (ان کو بھی اُس کتاب سے تعلق ہے اس رسالے سے نہیں۔ اس لئے نقل نہیں کئے گئے، وہاں دیکھ جاسکتے ہیں) فقط!

## ضمیم فیصلہ ہفت مسلم

ازکیم الامر مجدد الملک مولانا محمد اشرف علی حبہ تھانوی اصل مصنف فیصلہ مسئلہ

بعد الحمد والصلوة اشرف علی تھانوی خادم آستانہ حضرت شیخ المشائخ سید اسادات لانا مرشدنا الحافظ الحاج الشاہ محمد احمد اللہ صاحب ضوعفت برکاتہم اپنے پیر بھائیوں اور دیگر ناظرین فیصلہ ہفت مسلم کی خدمت میں عرض رہا ہے کہ رسالہ ہفت مسئلہ جو بیٹھ اس کے کہ بوجہ صفت توی جہانیہ حضرت مددوح کو خود فلم بارک سے لکھنے میں تکلف ہوتا ہے بھکم حضرت مددوح بعارات اس خادم کے بغرض جما کہ بعض مسائل تحریر یہ ہو کر تقریباً عرصہ چار سال کا ہوا کہ شائی ہوا ہے۔ چونکہ بعض صاحبوں کو اس کے مقصد صاف سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور حضرت مددوح کو علی الاطلاق ان اعمال وغیرہ کا مجوز قرار دیا۔ یہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ اس لئے بعض تحریر خواہی کی نظر سے حضرت صاحب کی غرض اور تحقیق کا اٹھا پڑو ریسمیج کے اطلاع عام دیتا ہوں تاکہ مجھ کو حق پوشی

لے کر کسی غیر واجب کو واجب، غیر ثواب کو ثواب سمجھنے کے غلے سے لوگ بچنے اور حب تک ہرش و حواس درست اور مددوی نہ ہونا تحقیق نہ ہوان یہ اعتراض نہ کیا جاتے۔ دونوں طرف کے طو ختم کئے جاتیں۔

۲۔ ہر طرح خواہ کسی غبیدہ سے اور کسی غیر واجب کو واجب غیر ثواب کو ثواب سمجھنے سے ہے، ٹھہ جائز کرنے والا۔

۳۔ حق بات چیخانے ؎

کے گناہ سے اور دوسرے صاحبوں کو التباہ سے بخات ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ امور را عمال حس بیانات و کیفیت سے مزاج و شائع ہیں۔ اکثر عوام بالخصوص جہیلائے ہندوستان اس کے سبب انواع انواع مفاسد اعتمادی و عملی میں بستا ہو جاتے ہیں جن کا تجربہ و مشاہدہ ہر عاقل فہیم مصنف کر سکتا ہے۔ شلاً مولد میں بعض قیود کو صورت سمجھنا اور ترک قیود سے دل تنگ ہونا ایصال ثواب کے طرق میں علاوہ تاکہ قیود کے اگر اولیاء کی روح کو ہوتا ان کو حاجت روا سمجھنا اور ترک المترزا میں ان سے ضروری سافی کا خوف کرنا اور اگر عام آفارب کی روح کو ہوتا اکثر قصد نام بحثی ہونا اور طعن و تشیع سے ڈرنا اور سماع میں زیادہ مجتمع اہل ہبود باطل کا ہونا اور امار و نسائے اختلاط، اعراس میں اول تو فساق و فجوار کا مجتمع ہونا اور یہ بھی نہ ہوتا اداۓ رسماں کی ضرورت کو فرض دام کرنا، پڑھنے والوں کا اکثر طعام و شیرینی کے لئے باوجاہت داعی کی وجہ سے پڑھنا۔ ندام غیر اللہ میں لعفن کم فہموں کا

من دی کو خبر و تدیر جانا کام پورا ہو جانے پر ان کو فاعل و متصرف سمجھنا جا اولیٰ  
ثانیہ سے اکثر جماعت اولیٰ میں سنتی کرنا حقہ ورثی میں جماعت اولیٰ کو فوت  
کر دینا اور اس پر متساٹ نہ ہونا۔ اخیر کے مسئلتوں میں باری تعالیٰ کے عجز  
کا اعتقاد کر دینا۔ اور اسی طرح کے بہت سے مفاسد ہیں جن کی تفصیل استفرا  
و تبتیع سے معلوم ہو سختی ہے۔ سو حضرت مددوح ہرگز ان مفاسد کو یا ان کے  
مقدمات و اباب کو جائز نہیں فرماتے ہی حضرت مددوح پر ایسا گمان کر کے  
علیٰ الاعلان ان امور کے جو افر پر تسلیک کرنا یا حضرت مددوح سے سوہ عقید  
کر دینا حضرت مددوح کے کمال اتباع شریعت اور آپ کی تقریر دلپذیر کی غرض  
سے نادائقی ہے۔ خلاصہ ارشاد حضرت مددوح کا یہ ہے:- کہ جس شد و مدد  
کے ساتھ یہ امور لوگوں میں شائع ہیں، وہ بدعت ہیں۔ کیونکہ اس رسالہ میں مرض  
ہے کہ غیر دین کو دین میں داخل کرنا بدعت ہے سو جو لوگ ان قیود کو جو فی نفسہ ہم باح ہیں مولد  
لہ جن کو پکارا جائے ان کو خبر پانے اور تدریت رکھنے والا جاننا۔  
۲۔ ہے اذ خود کو دینے والا۔  
۳۔ ہے افسوس و رنج کرنے والا۔  
۴۔ ہے جمادات کی طرح عاجز ہونے کا۔  
۵۔ ہے تلاش و جستجو  
۶۔ ہے خرابیوں،  
۷۔ ہے وہ باشیں جن پر یہ موقوف ہیں یا ان کے سبب وذر یا یہ ہیں۔  
۸۔ ہے ہر پر طرح۔  
۹۔ ہے دلیل لینا۔  
۱۰۔ ہے براعظیدہ رکھنا؛  
۱۱۔ ہے رسالہ والی دل کی میتوں تقریر کی اصل غرض دونوں طرف کے غلو کو روکنے سے نادائقی۔  
۱۲۔ ہے اپنی ذات میں ؟  
۱۳۔ ہے تاکیدی و احتجاب ؟

۱۔ ہے حق ناجی کے مخلوط ہونے اور شبہ پڑنے سے۔  
۲۔ ہے طرح طرح کے عقیدوں اور عدوں کی خرابیوں میں۔  
۳۔ ہے تاکیدی یا واجب،  
۴۔ ہے تیدوں کے ضروری یا واجب تراویہ نے کے۔  
۵۔ ہے حاجتیں پوری کر دینے والا۔  
۶۔ ہے نقصان دلکلیف پہنچانے کا۔  
۷۔ ہے نام اوپنجا کرنا غمز و تختیز۔  
۸۔ ہے بے وارضی کے رد کے اور عمر توں سے۔  
۹۔ ہے مل جل کر مشریک ہونا۔  
۱۰۔ ہے بکیرہ گناہوں میں خفیہ یا علی الاعلان مبتدا وگ۔  
۱۱۔ ہے چاہے سوری قرض ہی لینا ہو کہ وہ حرام اور بے سورجی بے ضرورت گا۔  
۱۲۔ ہے بلا نے والا ؟

کرتے ہیں، وہی غیر دین کو دین میں داخل کرنے والے ہیں۔ اس مرتبہ میں مانعینِ حق پر ہیں۔ اور بلا انتظام قیود و رسم و لزوم مفاسد احیاناً کر لینا در اور احیاناً نہ کرنا یہ مباح ہے اس کو حرام کہنا مانعین کا تشدد ہے۔ اس مرتبہ میں جواز حق ہے میں معنے دونوں کو آپ نے حق پر فرمایا چنانچہ بعض اکابر مخصوصین کے پاس جو حضرت مددوح کا دالانامہ مہری آیا تھا، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ نفس ذکر مندوٹب اور قیود بدعت ہیں۔ اسی طرح دیگر باقی مسائل میں تفصیل ہے جو اصول شرعیہ میں غور کرنے سے منہوم ہو سکتے ہیں۔ اس تو پیغ کے بعد کسی کو اشتباہ دالباس کا محل باقی نہیں رہ سکتا، اگر رسالہ نہدا کی کوئی عبارت اس تقریر مذکور کے خلاف پائی جائے وہ اس خادم کی عبارت کا قصور سمجھا جاوے، اور حضرت صاحب دامت فیوضہم و بر کا تہم کو بالکل مبرأ اور منزہ اعتقاد کیا جاوے۔ و ما علینا الا البلاغ.

(اشرف السوانح ج ۳ ص ۴۶)

**جواب:** رسالہ ہفت مسئلہ میں امکان کذب و امکان نظریہں تو کوئی امر ایسا نہیں لکھا کہ کسی کے خلاف ہو یکم اس کے امکان کا اقرار اور اس کی بحث سے احتراز لکھا ہے، تو اس میں کسی اہل حق کی مخالفت نہیں، اور مسئلہ تکرار جات میں ایسے اختلاف روایات فقر کے فریقین کو نزاع سے منع کیا ہے کہ مسئلہ مختلف میں مخالفت کرنا مناسب نہیں اور مسئلہ نداءِ غير میں صاف حق لکھا ہے کہ

اے یعنی ظاہری نظریں جبکہ تمام رسالہ کو غور سے اور اس کے اشارات کو سمجھ کر نہ پڑھے جو نکل خاہی سطھی نظر سے ایسے ثابت ہوتے تھے اس لئے حاشیہ میں ہر جگہ اس کو نہ لکھ کر نہیں کہے کبھی کبھی۔ ایسے داقع کے خلاف کا ہن ممکن ان کو اپر قدرت ہے گو عیوب ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہیں گے، ایسے ہی حضور صل اللہ علیہ وسلم کے مثل کا اللہ تعالیٰ سے بننا ممکن تو ہے ان کو اس پر قدرت تو ہے مگر ختم تنبیہنِ غیرہ وعدوں کے خلاف ہونے سے ایسا نہیں کریں گے۔

اے بچت!

اے اختلافی کو راجح و مرجوح کا اختلاف ہے؛

کہ سمجھی جاسکتی ہیں اور اب حاشیہ میں صاف لکھ دی گئی ہیں۔

اے شبہ پڑنا اور حق نا حق کا مخلوط ہونا۔ ان کا موقع۔

۹۔ برسی دیا کی؟

نداء غير اگر حاضر و علم غیب جان کر کر بیگانو شرک ہرگا اور جو بے اس کے شوق میں  
کہا ہے تو معدود رہے، گھنگاہ نہیں اور جو بد دل عقیدہ شرکیہ کے یہ سمجھ کر کہے کہ  
شاید ان کو حق تعالیٰ سخیر کر دیوے تو فلاں محلِ نص میں خطاب گناہ ہے مگر شرک  
نہیں، اور جو نص سے ثبوت ہو جیا صلوٰۃ وسلام بخدمت فخر عالم علیہ السلام  
کے ملاعکم کا پہنچانا تو وہ خود ثابت ہے، سو یہ سب حق ہے۔ اس میں کوئی اہل حق  
مخالف اس کے نہیں کہتا۔ اب رہے تین مشکلے قیود مجلس مولود کے اور قیود  
الیصال ثواب کے اور عرس بزرگان دین کا کرنا، تو اس میں وہ خود لکھتے ہیں:  
کہ دراصل یہ مباح ہیں اگر ان کو سذت یا ضروری جانے بدععت و تعددی حدود  
اللہ تعالیٰ اور گناہ ہے اور بد دل اس کے کرنے میں وہ مباح لکھتے ہیں۔ ہم  
لوگ منع کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو رسوم اہل زمانہ سے خبر نہ ہوئی  
ان قیود کو ضروری جانتے ہیں۔ لہذا باعتبار اصل کے مباح لکھتے ہیں۔ اور ہم  
لوگوں کو عادتِ عام سے محقق ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ضروری اور سذت جانتے ہیں  
لہذا ہم بدععت کہتے ہیں اس فی الحقيقة مخالفت اصل مسائل میں نہیں فی مگر بسب عدم

اصل حدیث شریف کے بیان کئے ہر نے مدعی کے خلاف ہیں کہ حدیث شریف میں صرف درودِ سلام  
کا پہنچانا آیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی بامیں یہ سمجھنا خلاف دلیل ہے۔

۳۷ حدیث شریف۔

۳۸ کہ فلاں نار بخ ہو بلا بلا کہ ہو حرف دادت شریف کا ذکر پڑ قیام ہو وغیرہ ایسے ہی الیصال ثواب  
عرس کی قیدیں۔

۳۹ کہ اللہ تعالیٰ کی مقر رکی ہونی حدود سے گز دجانا ہے۔

۴۰ ہے حضرت قطب عالم عرصہ سے مکہ مکرمہ تشریف و لکھتے تھے۔ ہندستان کے لوگوں کا حال معلوم  
نہیں ہوا اکر یہ لوگ ان سب قید دن کو احباب سمجھ کر کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرح نہیں کرتے کہ کبھی کبھی نہ کوئی  
لٹکے بانکلہ ثابت ہے۔

۴۱ کہ زمانہ کے لوگوں کے حال کے نہ معلوم ہنسے سے یہ ہو اے کہ ہندستان داون کو محضی مکث شریف کے  
جیسا خیال کر لیا۔

علم حال اہل زمانہ کے یہ امرِ دائم ہوا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا امام صاحب نے  
ایک صابی کو ایک حکم دیا اور صاحبین رحم نے دوسرا حکم یہ بدلہ اختلاف  
صابی کے ہوا ہے کہ اپام صاحب کے وقت میں ان کا حال اہل کتاب جیسا تھا  
اور صاحبین کے وقت مجوس جیسا۔ پس اختلاف اصل مسئلہ کا نہیں بلکہ بوجہ  
حال اہل زمانے کے ہے۔ ایسا ہی دیگر مسائل میں ہے، لیں ایسا ہی ان نین  
مسائل ہفت مسئلہ میں سمجھ دو۔ در نہ حضرت سلمہ کے عقائد ہرگز بدعیت نہیں ہیں،  
کہ اہل فہم و دالش خود عبارت رسالت سے سمجھ سکتا ہے۔ لہذا لکھتا ہوں کہ یہ  
رسالت ان کا لکھا ہوا نہیں۔ کسی نے لکھا ان کو عسنا دیا، انہوں نے اصل  
مطلوب کو دیکھ کر اباحت کی تصحیح کر دی اور حال اہل زمانہ سے خبر نہ ہوئی  
فقط واللہ تعالیٰ اعلم؛

### رشید احمد عفی عنتر

اے یہودیوں کا ایک فسر تھا  
تھے آتش پرستوں جیسا  
تھے اسی عز و سمجھ کے لئے اس وقت حاشیہ میں ظاہر کیا ہے.  
کہ جائز ہونے کی۔

ھے زمانہ والوں کی جانب سے کہ انہوں نے ان باتوں کو واجب بنا کھا ہے؟

## ایک خواب بشارت

قطب عالم حضرت حاجی صاحبؒ خلیفہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے  
صاحبزادہ کا خواب حضرت حاجی صاحبؒ کی حیات میں

اشرف السوانح جلد سوم میں حضرت گنگوہیؒ کے مذکورہ بالاتفاق اور شیدیہ  
والامضیون کا حوالہ دیکھ رکھتے ہیں نے اپنا ضمیمه جوا و پید مذکورہ ہو چکا  
ہے، ذکر فرمائے آگے لکھا ہے:

**ثواب :** یہ دونوں ضمیمے تو تو اعد شریعیہ پر مبنی ہیں۔ اب ان کی تائید ایک  
رویائے صالحہ سے ہے جس کا لقب حدیث میں مذکور ہے۔ نقل کی جاتی ہے۔ حاذ  
رویاجناب مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دار العالم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ ابن  
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ ہیں اور صاحبؒ روایت انکے خلف الصلو  
مولوی حافظ قاری محمد طیب صاحب مہتمم حال مدرسہ موصوفہ ہیں۔ وہی بڑہ  
بعین عبارۃ الراؤی وہی رویاجنابیہ مشتملہ علی حقائق غریبہ۔

### (دسمبرہ و نصیل)

اے نیک خواب کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اُنے مجھے ہی کیا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا  
لے خوشخبری دیتے والا حدیث میں کہ اجزاء کے بہت میں سے۔ نیک خواب ہی باقی رہ گئے ہیں۔  
لے خواب دیکھنے والے۔

اے خواب کو حضرت مخافوی سے روایت کرنے والے:

شہ اور رخواب یہ ہے کہ راوی خواب مولانا محمد طیب کی بعینہ عبارت میں اور خواب بڑا جیز غریب حقیقتوں پر مبنی ہے۔

آخر نے اپنے حضرت والد صاحب قبل رحمۃ اللہ علیہ سے ذیل کا واقعہ مناہی ہے:  
فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں فیصلہ ہفت مسئلہ چھپا، اور اس کی نسبت حضرت مرحوم  
 حاجی امداد اللہ قدس سرہ کی طرف تھی۔ اس لئے ہم لوگوں کو سخت فحیق پیش آئی  
مرافت کرنہ ہیں سکتے تھے اور مخالفت میں حضرت کی نسبت سامنے آتی تھی۔ بھیرانی تھی  
اسی دوران میں میں نے (حضرت والد صاحبؒ) نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا دیوان خا  
بے اور اس میں حضرت حاجی صاحبؒ تشریف رکھتے ہیں، میں بھی حاضر ہوں اور  
ہفت مسئلہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت حاجی صاحب ارشاد فرماء ہے ہیں کہ بھائی علماء  
اس میں تشدیکوں کو رہے ہیں۔ گنجائش تو ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت  
گنجائش ہیں ہیں۔ ورنہ مسائل کی حدود دوست جائیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو تشدی  
معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پھر بہت ہی ادب سے عرض کیا کہ حضرت جو کچھ بھی ارشاد  
فرماتے ہیں، درست ہے۔ مگر حضرات نقہ تواں کے خلاف ہی کہتے ہیں۔

حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں رؤوف روح بھی کو رہا ہوں  
اے تنگی۔

اے بڑے دردازہ لمحنی بھائیک دالا بڑے صحن کا مرکان  
لئے ان مسائل میں جو فیصلہ ہفت مسئلہ میں ہیں سختی کیوں کو رہے ہیں۔ کہ جو غیر حاجب کو واجب غیر  
ثواب کو ثواب نہیں فراز دیتے ان کو یہی ان سے روکتے ہیں۔  
جسکے کو وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، بدعت تو وہ ہے کہ غیر ثواب کو ثواب یا غیر ابیب کو واجب سمجھتے ہوں،  
جب وہ ایسا نہ کریں گے تو بدعت نہیں، پھر تو گنجائش ہے۔

جسکے کو نہ کہ آج کن کرنت سے وگ غیر ثواب کو ثواب اور غیر حاجب کو عقیدہ پا عملیں واجب کر کے کرتے  
ہیں جو ان سے خالی ہو کر کرے گا وہ ان کی شاہد ہت بھی ہو گی اور دیکھنے والوں کے لئے جائز ہونے کی ایک  
سند ہو گی۔ کو دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کا گناہ ہو گا۔ کو بدعت نہ کہا جائے مگر بدعت کا ذریعہ ہوا۔ اور نہیں  
بعتیں بن جن کہ مسائل میں اللہ رسول مقرر کی ہوئی حدیں باقی نہ رہیں گی۔

لئے انکار داشکال ہے۔

لیکن حضرت کی عظمت میں ایک رتنی برابر فرقہ نہیں دیکھتا تھا۔ اسی ردودِ قدر میں آخر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بات مختصر کرو، اگر خود صاحب شریعت فیصلہ فرمادیں پھر؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد کس کی مجال ہے کہ خلاف چل سکے، فرمایا، کہ اچھا اسی جگہ خود حضرت صاحب شریعت ہی ہمارے تمباکے درمیان میں فیصلہ فرمادیں والد صاحب نے فرمایا کہ اس بات سے مجھے بے غایت مسترد ہو رہی ہے کہ آج الحمد للہ حضرت صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نقیب ہو گی۔ اور اسی کے ساتھ حضرت حاجی صاحب کی عظمت اور زیادہ قلب میں بڑھ گئی بکھن تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو یہ درج عطا فرمایا ہے۔ کہ وہ اپنے معاملات میں براہ راست حضور کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور حضور کو اپنے یہاں بلا بھی سکتے ہیں۔ مخواڑی دیر میں حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لو تیار ہو بلیغ ہو۔

حضرت شریعت لارہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ دیوان خانہ کے سامنے ایک عظیم الشان مجھ نمایاں ہوا، قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ آگے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یونچے پیغمبے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجھ ہے حضور کی شان ہے کہ حلیہ مبارک ہو ہو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ غلیون کا کرتہ باریک بلا کسی بنیائیں وغیرہ کے زیب تن بے جس میں سے بدلن مبارک چمک رہا ہے۔ گویا شعاعیں سی پھرٹ رہی ہیں۔ سر مبارک پر ٹوپی پنج کلیہ ہے، جو سر پر کافیں تک منڈھی ہوئی ہے۔ اور پچھرہ انور نہایت مُشرق اور اس قدر چمک رہا ہے جیسے

لے کر طالب علم کی طرح بحث فائدہ حاصل کرنے کے لئے بھتی۔

لے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؛  
لے دخواست کر کے تبریز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بابر کرامت درمیان کے جماعت آٹھ جاتے ہیں اور حضور  
انہائی گرم سے قدم رنجان بھی ہو جاتے ہیں۔

لہ روشن؛

لے چمکتا ہو اکنہ سنما ہوتا ہے حضور حب دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو حضرت حاجی صاحب سے سُر و قد ایک کونہ میں ادب سے جا کھڑے ہوتے اور میں ایک دوسرے مقابل کے کونہ میں ادب وہیت سے باحتہ بامذہ کر کھڑا ہو گیا۔

حضور کنارہ کاٹ کر میری طرف تشریف لاتے اور بالکل میرے قریب پہنچکر میرے کندھے پر دست مبارک رکھا اور زور سے فرمایا کہ حاجی صاحب یہ لڑکا جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔

اس پر تو میری خوشی کی کوئی انتہاء رہی۔ اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحب کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا تب عطا فرمایا ہے کہ حضور کس بے تکلفی سے تشریف لائے، اور کس بے تکلفی سے انھیں مخاطب فرماتے ہیں۔

اور حضرت حاجی صاحب کی حالت یہ ارشاد مبارک شن کر یہ ہوئی کہ بجا و درست بجا و درست کہتے بھکتے ہیں، اور اپنے قدموں کے قریب تک سرخیا کر کر پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر بجا و درست بجا و درست کہتے بھکتے اسی طرح بھکتے ہیں اور پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔

سات مرتبہ اسی طرح حضرت حاجی صاحب نے کی، اور مجلس پر سکون کا عالم ہے۔ سارا مجھ کھڑا ہے کہ حضور ہی خود کھڑے ہوئے ہیں۔ حب یہ سب کچھ ہو چکا۔

لہ خالص سونا۔

لے بالکل سیدھے کہ تند سر کی طرح سیدھا ہو۔

لے رعب کی وجہ سے۔

لے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب زمانے کے راتیں حدیثوں میں آتے ہیں۔

لے بخودی اور ننا کا یہ درج ہوا؛

تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی یہ شفقت و غایت دیکھ کر جرأت کی اور عرض کیا کہ حضور حدیث میں جو حلیہ مبارک ہم نے پڑھا ہے اس وقت کا ترجمہ مبارک اُس کے خلاف ہے۔ یہ تو حضرت لگنگوہی کا حلیہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اصل حلیہ ہمارا وہی ہے جو تم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ لیکن اس وقت ہم نے مولانا لگنگوہی کا حلیہ اُس لئے اختیار کیا کہ تمہیں ان سے محبت و مناسبت ہے۔ اس جواب پر مجھے حضرت لگنگوہی سے اور زیادہ محبت و عقیدت بڑھ گئی اور اپنے اکابر کے درجاتِ قرب واضح ہوئے۔

پہنچ منٹ پھر کوت رہا، اور حضرت حاجی صاحبؒ غایت ادب و تعلیم سے سر جو کاتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب اُب تک میں اجازت ہے؟ حاجی صاحب نے ادب سے عرض کیا کہ جو مرضی مبارک ہو۔ برصغیر حضور من سارے مجھ کے اسی راہ سے تشریف لے گئے جس راستہ سے تشریف لائے تھے۔ اور میری ساتھ کھل گئی۔ یہ خواب میں نے (والد صاحب نے) حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں کچھ کر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ حضرت پر اس خواب سے ایک کینیت بخودی کی طاری ہوئی اور کچھ اس قسم کے الفاظ فرمائے کہ ”کاش یہ خواب لکھ کر قبر میں نیمر سے ساتھ کر دیا جائے تو میرے لئے دستاویز ہو جائے۔“

### (احقر محمد طبیب غفرلہ)

لئے اس سے ارشاد ہو گیا کہ حدیث جو ہم تک اب یہی رہی ہیں۔ وہی قابل عمل اور قابل اتباع و قبول ہیں۔

لئے سابق ارشاد کے بعد یہ معامل کس قدر محبت و شفقت کی دلیل ہے۔

# دفع شبهات اختلاف مسلمک حضرت حاجی صاحب خلفاً

از بودرالتوادی ص ۲۷۔ حکمتے خدا۔ مصنف :  
حضرت حکیم الامت، مولانا محمد اشرف علی صہب۔ تھانوی

**سوال :** بخدمت ذوالمجدر والکرم مولانا و مقتدا نامولوی اشرف علی صہب تھانوی مد فیوضہم۔ پس اسلام مسنون معروف آنکہ اگرچہ میں ایک شخص اجنبی ہوں لیکن بعض اعتبارات سے اپنے آپ کو زمرة خدام میں تعترکرتا ہوں اور اس بنا پر بے تکلفاً ایک تکلیف خاص دینے کی جراءت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھکو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ بعض جوہت سے ہمیشہ سے ایک عقیدت قلبی ہے۔ اور جو حضرات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واسطہ و ارادت رکھنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی دلی اخلاص ہے اور بالخصوص حضرت مولانا مشیر احمد صاحب گنگوہی مدظلہم العالمی کے ساتھ جنکے محاذ خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض تالیفات میں بالتفصیل رقام فرمائے ہیں، اور اپنے معتقدین کو ان کی جانب رجوع دلانے کی ہدایت فرمائی ہے ایک خاص ارادت ہے۔ بعض اوقات بعض مخالفین اور مبتدعین کے بعض اعتراضات اور شبہات کی وجہ سے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سلکہ اللہ تعالیٰ کے بعض معقولات اور معتقدات کے مختلف فیض ہونے کے باز میں لے اخذ کی، گواہی کی تحریر فتحما خلافی باتے جاتے تھے کہ حضرت حاجی صاحبؒ (باقی ص ۹۶ پر دیکھئے)

کے جاتے ہیں اور جن کا جواب معمول اپنے سے نہیں بن پڑتا، طبیعت کو ایک خلجان پیدا بوجاتا ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان شبہات کا دفعہ مخالفین کے جواب اور نیز اپنی تشفی قلب کے داسطے آپ کے ذریعہ سے کروں کیونکہ اول تو مخالفین کو ایسے شبہات پیدا کرنے کی جو زیادہ حراثت اور قوت ہو گئی ہے، وہ رسالہ "فیصلہ هفت مسلم" کی اشاعت ہے اور یہ رسالہ آپ کا ہی شائع کیا ہوا ہے۔ اگرچہ آپ نے اس کے ساتھ ایک مضمون بطور ضمیر کے بھی اضافہ فرمایا ہے۔ جو صرف ہم جیسے معتقدین کے لئے فی الجملہ باعث طائیت ہو سکتا ہے۔ لیکن تاہم وہ مضمون اس اصلی تحریر کے مطلب پر کوئی کافی و واقعی اثر پیدا نہیں کر سکتا، اور مخالفین اس کو نظر تاہم سے دیکھتے، اور قابل قبول قرار نہیں دیتے، بلکہ اس تقریظ کے مضمون سے جو رسالہ در منظم مؤلفہ شاعر عبدالحق صاحب مہاجر مکنی پر جو حضرت حاجی صاحبؒ نے ارتقام فرمائی ہے، اس اصلی مضمون رسالہ فیصلہ کی تائید ہوتی ہے۔

لے مخترا درجات ہے مخدوس کی چراق بکم علوی کی نظر نہیں پہنچتی۔ اس کو کچھ سے کچھ سمجھتے یا مدرسیار لوگ بنائیتے ہیں۔

لے پورا۔ کہ رسالہ کے لفظ لفظ کو کھول کر نہیں بتایا تو بعض لوگ اس کو رسالہ کے موافق نہیں سمجھتے۔ یا بعض غلط سمجھا دیتے ہیں۔

لے پوری نظر سے کہ حضرت حاجی صاحب کے لفظوں سے میں کھاتا ہوں دیکھتے یا قصداً تحریر صحت کر لیتے ہیں جسکہ اس کی تائید جو دونوں جگہ سے اپنے ذہن میں قائم کرنا ضروری سمجھتے ہیں نہ کہ واقعی۔

لے ۹۵ سے آگے) فعل کو مثلہ مدد و سان والوں کے کہ کرنا طاہر کیا جانا تھا۔ حالانکہ نہ دہان نہ تذاعنی (بلہ بلکہ)، بخ ہونا تھا۔ نہ کسی غیر شروع کو شرعی نہ کسی غیر واجب کو واجب نہ رسم بنانا تھا۔ نہ دہان ایسا کرنے والے تھے کہ ان کے لئے سند جواز بنتا، اور حضرت علی گوہی تو غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب اور اس کے ماحول میں مثبت و سند جواز بننے اور رسیدیں کرنے کو منع کرنے تھے۔ تو اختلاف کہاں تھا۔ مگر بنایا گیا تھا۔

دوسرے یہ کہ جناب کی تحریر اتنے جس قدر اس فنت تک میرے مطالعہ سے گذری ہیں، ان کو تعجب و تشدید و لفاظیت سے مبرأ اور انصاف و حقیقت اور محتقولیت سے ملعوب پایا جو مخالف کو موافق اور حق ناشناس کو حق پسند بنانے کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔

تیسرا یہ کہ غالباً آپ کو ان انتاوی کا حال بھی معلوم ہو گا جو اہل ہند نے کسی کسی کی مسئلہ مختلف فیہ کی تسبیت مکہ مغفار سے طلب کئے تھے۔ اور اس کا جواب بعض مخالفین کے حسب منشا ملا اور جن پر مخالفین حضرت حاجی صاحب کی ہر اور دستخط ہونا بھی بیان کرتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ جہاں تک مجھ کو تحقیق ہو اے۔ آپ اسی کا رخیر کے متعلق عرض کے جواب دینے اور اپنے اوقات عزیز کے صرف کرنے میں بھی اسی اصلاح حال

---

لے جویں دیاں،  
لے مجھرا ہمرا بیز،  
لے مسائل کی غلط تعبیر کر کے ادھر منسوب کر کے غلط فتوے مجھ سکر دے لے لئے تھے جن کے مقابل حضرت مولانا خليل احمد صاحب سہارن پوریؒ نے صحیح سائل مکمل کر چکر کی صحیح جوابات مکملہ و مدنیۃ طلبہ کے علماء سے حاصل کر کے المہندس کے نام سے اسے شائع کیا تھا  
لئے غلط بات کا دہی جواب غلط مل سکنا تھا۔

لے مکن ہے دہاں بھی غلط باتیں منسوب کر کے غلط جواب لئے ہوئے پیش کر کے دستخط لئے لئے ہوں۔ تو جواب تو ان بالوں کا ہو گا، نہ اس داقعہ کا کہ ان کے اعتقادات و خیالات واقع ہیں ایسے ہی ہی جواب تو بشرط صحت سوال ہوتا ہے۔ کوئی پوچھئے کہ فلاں شخص خدا کا انکار کرتا ہے۔ تو جواب صحیح جو گا کہ وہ کافر ہے یعنی اگر سوال کا واقعہ صحیح ہے وہ واقعی انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ ربی یہ بات کہ وہ انکار کرتا ہے یا نہیں، داقعہ کیا ہے۔ اس سے فتنے میں بحث نہیں ہوتی۔ نہ اتنی دُور دالے واقعہ معلوم کر سکتے ہیں، نہ ہر سوال پر یہ تحقیقی مکن ہے۔ نہ مفتی کا یہ کام ہے۔ لے دین کی مشکلات کے خطوط کے جوابات ہے۔

قال مولین و حقوق المسلمين دریغ بھی نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا وہ شبہات ذیل میں گذارش کر کے آئیں وار ہوں کہ بتقاضاً شفقت و ہمدردی اسلامی تفصیلی جواب ان کا مرحمت ہو، تاکہ آئندہ کے لئے اس قسم کے خلبان سے جو وساں شیطانی کہے جانے کے لائق ہیں، طبیعت محفوظ رہے اور مخالفین کو جواب متعقول دیکھ سکتے کرنے کا موقع ملتے۔

**مشیہ اول** یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض معتقدات و معلومات جو ان کے رسالہ فیصلہ بفت مسئلہ سے یا تقریباً مندرج رسالہ درستلم سے یاد گیر فتویٰ ہم منحصر رسالہ نذر کو پرستختہ اور مہر، و نے سے یا ان معتقدات اور معلومات کی نسبت بعض اشخاص محدث کے حضیدیہ یا گوشہ زد احوال را قول بیان کرنے سے ثابت ہوتے ہیں۔ آیا واقعی تھے یا یہ اقوال و افعال بخلاف اپنے ذاتی عقیدہ کے کسی مصلحت پر مبنی تھے وہ عایت شریعت و اہلیان مکہ مظلوم حضرت سے سر زد ہوتے تھے۔ اگر بخلاف عقیدت واقعی کے تھے تو یہ صوت تھی کی۔ اور شعار روافق ہے جو حضرت کے کمالات ظاہری و باطنی کے بالکل منطبق ہے۔ اور اگر موافق عقیدہ واقعی تھے تو ان حضرات کے جو حضرت سے واسطہ ارادت اور خلافت رکھتے ہیں۔ ان معتقدات اور معلومات کو بدعت اور صفات کہنے کا حضرت

لہ مگر یہ غرض صحیح نہیں، ساکت و خاموش کرنا دین کی بات نہیں حتیٰ پہنچانا ان کا کام ہے۔ وجہ نہیں ۲۷ عقیدے اور افعال، ۲۸ لہ گوہ شخص اپنی نظر سے دیکھتا، اور دل میں بھی ہونی بات کے نامہ بھی سمجھتے ہے۔ اور جس سے ذرا بھی شکر بنی ہو، اس کی بات کو گول بول موڑ توڑ کے غلط رائی میں لے لیتا ہے۔ اور اس طرح قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ ۲۹ لہ اس زمانہ میں دہان کے حاکم کا شریف بکھتے تھے۔ یعنی حکومت کی رعایت یا لوگوں کی رعایت سے ۳۰ ۳۱ ۳۲ خصوصیت و علامت لہ مخالف؛

حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور پر کیا اثر ہوا، اور آن حضرات کے حق میں کیا تنجیج پیدا ہوا۔  
**دوسرہ مشیہ** یہ ہے کہ آیا مرید اور خلیفہ کو متن کل الوجہ اتباع شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے اور صرف اوراد و اشغال متعلق طریقت میں اتباع کافی ہے اور دیگر مل شرعیہ میں اپنے علم اور احتجاج سے کام لینے کا مجاز حاصل ہے۔ تو اس صورت میں احکام شرعیہ میں شیخ کے عمل با اختلاف سے مرید کے قلب میں عطفت شیخ جیسا کہ چاہتے، تاہم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ جب شیخ کے عقائد اور اعمال بزعم مرید خلاف شرع اور سنت ہوں گے۔ تو شیخ کے ساتھ ارادت مبھی کسی طرح باقی نہیں رہ سکتی۔ اور ایسی حالت میں خود شیخ لائق شیخیت متصور نہیں ہو سکتا۔  
 اس لئے کہ جب شیخ کو قطع نظر علم ظاہری کے اپنے کشف باطنی سے ثابت ہوتے ہیں۔ آیا واقعی تھے یا یہ اقوال و افعال بخلاف اپنے ذاتی عقیدہ کے کسی مصلحت پر مبنی تھے وہ عایت شریعت و اہلیان مکہ مظلوم حضرت سے سر زد ہوتے تھے۔ اگر بخلاف عقیدت واقعی کے تھے تو یہ صوت تھی کی۔ اور شعار روافق ہے جو حضرت کے کمالات ظاہری و باطنی کے بالکل منطبق ہے۔ اور اگر موافق عقیدہ واقعی تھے تو ان حضرات کے جو حضرت سے واسطہ ارادت اور خلافت رکھتے ہیں۔ ان معتقدات اور معلومات کو بدعت اور صفات کہنے کا حضرت

لہ ہر ہر طریقہ سے۔

۲۷ لہ پیر صاحب کی پیروی،

۲۸ لہ پیر صاحب کے ان کے علم کے خلاف کرنے سے،

۲۹ لہ پیر بننے کے لائق،

۳۰ لہ پیر اور مریدوں کے درمیان اختلاف کی چیز،

۳۱ لہ جائز اور مگر ابھی ہونے میں۔

۳۲ لہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی منزہ لیں طے کرنے کا،

۳۳ لہ طریقت میں کامل یورا کامل کر دینے والا،

یہ کچھ سحر متصور نہیں ہے تو اول تریہ اختلاط ایسا اونما درجہ کا نہیں ہے دوسرے  
اس کے تسلیم کرنے میں طالبان حق کو کسی عالم و کامل ملکیت سنت شیعہ کی نلاش کریں  
جو ایک ضروری بات قرار دی گئی ہے، ضرورت باقی نہیں رہتی بلکہ ہر قومی مشرب  
ان اشغال معینہ و معمولات کی تعلیم اور بذریعہ بیعت داخل مسلم کرنے کے لئے  
کافی ہو سکتا ہے، اور اگر مرید اور خلیفہ کو اتباع کامل کی ضرورت ہے اور مرشد  
کے ساتھ ہم خیال دہم عقیدہ دہم عمل ہونا ضروری ہے۔ تو بوجہ اختلاف مسائل معلوم  
منذکرہ شبہ اول ان حضرات کے اندر ان کا فقدان ظاہر ہے۔ پس ایسی حالت  
یہ ان حضرات کی خلافت اشده کیونکہ تسلیم ہو اور اگر نہ تسلیم ہو تو حضرت  
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرمان جو بالتفصیل حضرت مولانا رشید احمد صاحب  
کے حق میں نافذ ہوتے ہیں کیا مخفی رکھتے ہیں اور کس بنابر ہیں اور اگر ہر دو حضرات  
کے معتقدات اور معمولات یکسان قرار دیتے جائیں تو تطبیق کس طریقہ سے کی  
جائے اور قطع نظر دیکھیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل  
فیصلہ ہفت مسلک کے لئے ایک شرح پڑا زتابیلات کثیرہ مطلوب ہو گی۔

۱۔ سنت بنی صطے الدلخیلہ و سلم کا نام بعد از پیر ۴

۲۔ ذکر دجالہوں کے مقررہ طریقوں اور وظائف کی۔

۳۔ پوری پیری کی خیالات عقیدوں اور عمل کسی چیز میں خلاف نہ ہو۔

۴۔ مذکورہ

۵۔ نہ ہونا۔

۶۔ حق و صیغہ۔

۷۔ حضرت حاجی صاحب و مولانا رشید احمد صاحب؟

۸۔ ایک کو دوسرے کے مطابق و مرافقت بنانے کی صورت؟

۹۔ نہیں بلکہ توصیعات و تشریحات سے بھرا ہوا چونکہ سائل ہے، خود اس کا مطلب گہرائی کا اور

صیغہ رسمیجہ سکے تو توصیحات کو تاویلات کہہ دیا۔

## تیسرا مشپہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے خلاف میں باعتبار اختلاف بعض معتقدات و معمولات کے دو فریق ہیں اور ہر فریق علما کا ہے جن میں ایک فریق مولوی احمد بن صاحب کا پوری اور ثناہ عبد الحق صاحب ہماجریکی۔ مولوی عبداً الحمیع صاحب میرٹی وغیرہ کا ہے جن کے معتقدات و معمولات مثل حضرت حاجی صاحب دوسرے معتقدین صوفیہ کرام پیشوایان سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے ہیں۔ اور دوسرے فریق مولوی رشید احمد صاحب و مولوی اشرف علی صاحب و۔۔۔۔۔

مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم وغیرہ کا ہے جو ان معتقدات و معمولات  
کو بدعت و ضلالت بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر رکھتے ہیں۔ کہ نوبت بشرک و کفر  
پہنچتے ہیں۔ پس ان ہر دو فریق میں سے خلافت راشدہ کس فریق کی متصور ہوئی  
ہے۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے مختلف العقیدہ والعمل اشخاص  
کو خلافت عطا فرمان کیا ا عمل ہے۔ پس یہ ہیں وہ اعترافات و شبہات جنکے  
جو ابادت متعقول دینے میں اور ناخالین نامتعقول کو متعقول کر دینے میں مجھے جیسے بعض کم علم  
محباں خانزارہ امدادیہ کو دشواری ہوتی ہے۔ پس اگر جناب والا توجہ فرماؤں اور

اہم عقیدوں اور علوم کے۔

۱۔ افسوس کے سائل صاحب حضرت حاجی صاحب اور صوفیائے چشتیہ کے وقت کو زیبھ کے۔ اور موہجہوں  
صاحبوں کے ان کے مثل کہ گئے حالانکہ وہ سب حضرات غیر شرعی کوشش علی غیر واجب کو واجب بنانے والے  
اور رسمی خصومات و تیروادات کے پریو نتھے۔ ان کا ہاول ایسا تھا۔

۲۔ باتكل غلط بات ہے جس طرح سے سلف کے یہ بزرگ ہر چیز کو اس کے هر جہ پر کوکا ہ گا۔  
بلہ ارتزام کرتے ہے اس کو کبھی بھی صنالات و مگر ابھی نہیں کہا جا سکتے نہ ان حضرات نے کہا۔

۳۔ العیاذ بالله ان بزرگوں کے حد و شرعاً کے اندکے کا ہوں کوں ایسا کہہ سکتا ہے یہ تو ان  
زمانہ حاضر کے لوگوں کے نہ سکتا ہے جو صفاتِ خداوندی غیر میں بتاتے ہیں۔ اور اس کو ہر سمان  
نشرک کرے گا۔

۴۔ ایک دوسرے کے خلاف عقیدے۔ اور عمل والوں کو۔

ان امور کا جواب فضیل تحریر فرمادیں تو قطع نظر اس کے کمال فضیل کے جواب دینے میں سہولت ہو جادے مبصداق **لیظمهنَ قلِیٰ** کے موافقین کے انسراج خاطر کے لئے بھی غایت بکار آمد اور مفید ہو۔ زیادہ بجز نیاز۔ کیا عرض کیا جائے فقط والسلام۔

**الجواب** : مکنی السلام علیکم درحمة اللہ و برکاتہ . بعض امور فی نفسیہ حجاجہ ہوتے ہیں ، مگر مفاسد عارضہ سے قیمع ہو جاتے ہیں جیسے اعمال تنازعہ فیہا فی زمانہ مثل مجلس مولد شریف اور فاتحہ دیگی رہوں دخواہ ہا۔ ان میں دو طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ ان مفاسد کو قیمع نہ سمجھیے اور اس کے ساتھ ان عمل مخصوصیت ہے۔ دوم یہ کہ ان مفاسد کو قیمع سمجھیے اور ان مفاسد کے ساتھ ان عمل کی بھی اجازت نہ دے، مگر بوجسٹن ظن اور عوام الناس کے حالات تفتیش نہ کرنے سے پہنچ کر کہ لوگ ان مفاسد سے بچتے ہوں گے یا پچ جاویں گے۔

اجازت دیدے سو یہ اختلاف فی الواقع مسئلہ میں اختلاف نہ ہو بلکہ ایک واقعہ کی تحقیق کی غلطی ہے جو علم و فضل یا ولایت بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔

اور اس سے عنفمت یا شان یا کمال اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اُنتہم آنکہ

اے ڈاکٹر احمدیان پا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔

اے اپنی ذات سے تو جائز یعنی ان کا کرنا بھی درست نہ کرنا بھی جائز۔

اے خرابیاں پیش آئے سے بُرے اور ناجائز ہو جاتے ہیں۔ شایاً غیر شرعی کو شرعاً غیر احیب کرو جب نہیں آتا۔

اے یہ کام جسیں یہی ہمارے زمانہ میں نہ اڑے ہے۔

اے اور ان جیسی چیزیں یہی

اے گراہی و گناہ کا ہے کر گنہ کو ثواب یا جائز سمجھنا ہے۔

کے حقیقت واقع میں۔ اے تم اپنے دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو۔

بِاَمْوَالِ دُنْيَا كُمْ خَوْدِ حَدِيث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشریع دربابِ بشارت یا حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا با وجود صد و حکم نبی و رب اب اجراء حد زنا ایک جاریہ کے ذمہ ہونے کی وجہ سے تعییل حکم میں التوا کرنا اور حضور کا اس کو پسند فرمانا خود احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ ایسا ہے کہ میرے اس مختصر مضمون سے سب شہادت حل ہو گئے ہوں گے، مگر اختیاط کسی قدر مفضل بھی عرض کرتا ہوں۔

**شبہ اول کا جواب** یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دہی عقائد میں جواہل حق کے ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ان اعمال میں شریک ہونا تحریر ایاقتراء اذن فرمانا لغوز بالله میعنی فادع قیدہ پر نہیں ہے۔ نہ تلقیہ پر ہے بلکہ چونکہ یہ اعمال فی نفسہما جائز ہیں ان کو جائز شہید کر کرتے تھے اور کہتے تھے۔ اور مگان یہ مختار کافاعیین یا مخاطبین یا حاضرین مجلس بھی ان مفاسد سے بُرًا ہوں گے۔ تو بعض جگہ تو یہ مگان

اے مسلم وغیرہ میں بھی حدیث ہے ایک باغ میں سے حضور نے حضرت ابوہریرہ کو نعلین مبارک کی علاط دیکھ بھی کر جو شخص دل کے یقین سے لا الا الا اللہ کی شہادت نے اس کو جنت کی بشارت دید و حضرت عمر نے باہر سینہ پر مارا کہ گر پڑے کہا کوٹ جاؤ حضور کے یہاں تقدیر پہنچا، تعریف کیا لوگ اس پر محروم کر بیعت ایمان کیتے۔ فرمایا جھوڑ دو۔

۲۔ اے مسلم ترمذی البرادوی میں ہے ایک باندی نے زن کیا، حضور نے حضرت علی کو حکم دیا جاؤ جو حد قائم کر دیا ایسے عرض کیا اس کے زمینی کا خون جاری تھا۔ فرمایا۔ چھوڑ دو جیکہ خون اس کے پھر حد جاری کرنا تو پہلی حدیث میں عوام کا اس میں عورت کا حال معلوم نہ تھا۔

۳۔ اے کہ بد اتحود جائز ہونے کی وجہ سے بُرائیوں سے پاک ناجائز ماحول سے دور ہونے سے عمل تھا۔ اور مرید کو ایسا ہی کو ترمذیت مکر پیر کو کرقی واقعہ معلوم نہ ہو یا غلط پہنچا ہوا ہو تو اس کے موافق نہ کرنا درست ہے جیسے حضرت عمر و حضرت علی نے کیا۔ اور جس سے حسن فتن ہو کہ خرابیوں سے پاک ہے۔ یا رہے گا اس کو سند دینا درست ہے پھر وہ خود ذمہ دار۔

اے اپنی ذات سے  
۵۔ بُرائیوں سے بچا کر۔

۶۔ ایسے کام کرنے والے کے بری ہے

صحیح تھا، اور بعض جگہ حسنطن کا غلبہ تھا، اور یہ ہی صورت اکثر تھی۔ اور جو لوگ بدت  
و خلافت کرتے ہیں نفس افعال کو نہیں کہتے کہ حضرت پر اثر پہنچے۔ بلکہ مفاسد کو کہتے ہیں  
جس سے حضرت خود بری ہیں۔ پس حضرت کے قول و فعل کا خلاصہ یہ نکلا کر یہ افعال بلا  
مfasد جائز ہیں اور فتویٰ علماء کا حاصل یہ ہوا کہ یہ افعال مع المفاسد ناجائز ہیں۔ سو  
اس میں کچھ اختلاف نہ ہوا، البتہ یہ امر کہ آیا اکثر موقع میں یہ مفاسد موجود ہیں یا نہیں  
سمیں حضرت اور علماء کا اختلاف رہا۔ سو یہ ایک واقعہ میں اختلاف ہے جیسے زید کے  
کھڑکے ہرنے میں۔ اس میں اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح خبر تحقیق نہ ہو تو حضرت پر لازم د  
لامت نہیں اور نہ اختلاف کرنے والوں کو اس کے خلاف سے کوئی ضرر،  
**دوسرے شبہ کا جواب** یہ ہے کہ جو امر یقیناً خلاف ہوا اس میں شبہ  
کا اتباع مرید کو ضرر نہیں اور جو امر ایسا ہو کہ شبہ کا عقیدہ اس میں صحیح ہے اور  
کسی واقعہ کی صحیح خبر نہ پہنچنے سے عمل خلاف مصلحت ہو گیا۔ چونکہ فی نفسه وہ امر خلاف  
له نیگ مگان تھا کہ بغیر شرعی کو شرعی غیر احیب کو واجب نہ بنائیں گے ہر مکروہ و گناہ سے بچے رہیں  
گا۔ خحضرت کے محبت یافت تھے مگر مکرمہ سے والپس بندوستان پہنچ کر دوسرا صورت پر سوچاتی تھی۔  
له تداعی غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب بنانا ایسے ماحول میں مشابہت و متدبنا ان کو کہتے  
ہیں۔ ان سے پاک صورت کو نہیں کہتے۔

لئے حضرت کے سامنے مکرمہ کے حالات تھے۔ بندوستان کا پر احوال معلوم نہ تھا۔ اس لئے منع نہ فرمایا۔  
علماء کے سامنے بندوستان کا حال ان خرابیوں کا وجود بکہ ان سے بڑھ کر معصیت اور قریب بشرط حالات معلوم  
تھے، ان واقعات کے علم کا اختلاف تھا۔  
لئے جس کو معلوم ہے کھڑا ہے وہ یہ کہے گا نہیں کھڑا تو یہ اختلاف واقع  
کے علم و عدم علم سے ہے دونوں سچے ہیں۔

لئے کوئی صحیح خبر پر مداربے اگر حضرت کو صحیح خبر ملتی تو ایسا ہی فرماتے۔  
لئے شریعت کے خلاف کہ بلکہ جائز نہیں کہ حدیث میں ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرمائی  
نہیں اور تاویل نہ ہے کہ وکیار میں بیعت فتح کرنا واجب ہے لئے اپنی ذات سے

مشروع نہیں جس عقیدہ و نیت سے شیخ نے کیا ہے وہ خلاف شرع نہیں، اس لئے  
شیخ کی عملت مرید کے قلب سے ذرہ برابر نہیں گھٹ سکتی مثلاً اگر کسی شخص نے  
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر کھلا دیا اور آپ کو اس وقت  
خبر نہ ہوئی تو صحابہ کے قلب سے یہ سمجھ کر کہ حضور نے زہر نوش نہ مایا ہرگز عملت  
کم نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہی کہا جاوے گا، کہ آپ نے تو کھانا حلال نوش فرمایا ہے  
مگر زہر کی اطلاع حضور کو نہ ہوئی، ورنہ ہرگز نوش نہ فرماتے، اور اس تھے  
پر مرید افعال شیخ کو خلاف شرع نہ سمجھے گا جو عملت کم ہو، اور کشف باطن  
اور نور عرفان سے حق و باطل کا انکشاف کسی درجہ میں مُكْتَسَمٌ سہی مگر یہاں تو حق  
و باطل میں شیخ کو التباہ شہی نہیں جو انکشاف کی حاجت ہو، اس کا انکشاف  
تو حاصل ہے کہ فلاں طور پر حق ہے اور فلاں طور پر باطل ہے۔ ہر ف ایک واقعہ  
جزئیہ اس کی نظر سے مخفی ہے جس کا مخفی ہونا انبیاء علیہم السلام نے بھی متبع  
نہیں، خود حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ میں بشر ہوں۔ شاید کوئی شخص اپنے  
دعوے پر صحبت شرعیہ قائم کر کے مقدمہ جیت لے۔ اور اس کا حق نہ ہو اور میں  
اسے دلادول تو و وزخ سے حصہ لے رہا ہے۔ ظاہری صحبت پر حضور فرمادیتے تھے  
له اور زہر کھانا حرام ہے۔

لئے زہر معلوم نہ تھا کہ حرام ہوتا ہے یہ واقعہ بھی حدیث شریف میں ہے۔  
لئے کہ اہل زمانہ کا حال معلوم نہیں کہ وہ گھر کے طریق سے کرتے ہیں۔ آپ نے لذاعض جائز کیا  
ہے۔ نہ معلوم ہونے پر منع نہیں کیا۔

لئے تسلیم کیا ہوا؛                                  لئے خلط ملط

لئے خاص و افسوس گوں کا گرد برد کرنا؛                          لئے دور ۲

لئے ثبوت ۲    لئے شرعی ثبوت ۲

وہ ثبوت ۲

ا ور بعض اوقات احتمال ہوتا تھا کہ شاید دوسرے کا حق ہو حضور پر ہرگز کوئی طعن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو حق ہی فیصلہ فرمایا، مسٹر چونکہ واقعہ کی تحقیق صحیح نہ ملی، اس لئے صاحبِ حجت کو غالب فرمادیا، ایسی حالت میں کامل مکمل ہونے میں کوئی شیخ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس شیخ کے جس کے عقاید یا مسلک میں غلطی یقینی ہو، وہ البتہ قابلٰ تصریح ہونے کے نہیں۔ اور اور معروف ہو چکا ہے کہ حضرت کے عقاید یا مسلک میں خلاف نہیں، صرف ایک واقعہ کی تحقیق صحیح نہیں پہنچی۔ پس نہ حضرت پر کوئی شبہ رہا نہ خلفاً کی خلافت راشدہ میں کوئی قدرح رہا۔

سلطان نظام اولیاء قدس سرہ کے خلیفہ کا سامع سے منکر ہونا شیخ کے روپ و مشہور معروف مرتبہ اور فہیم آدمی کے لئے خود فیصلہ ہفت مسئلہ کی عبارت میں جا بجا تقيید کو رتبہ ضرورت میں سمجھنے کی مذمت مشریح کافی ہے۔ اور مخاصم کے حق میں ڈفاتر و دساتیر بھی کافی نہیں،

تیسرا شیخ کی نسبت یہ عرض ہے کہ حضرت کے تمام خدام کی خوش اعتقادی کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے یقیناً بعض اہل علم کو بعض امور میں لغزش اُقع ہوئی ہے بعض کو تو مسائل میں غلطی ہو گئی ہے جس سے حضرت بالکل مبرراً و مُمَرَّہ ہیں۔ اگر وہ حضرت کے قول کی سند لا دیں تو بہت یقین کے ساتھ کہا جائے کہ اھوں

اے پیر ہم نے کے لائق نہیں اس سے بیت نہ ہوں، ہرچچے ہوں تو بیعت توڑ دیا راحب ہے  
لئے اعتمراحن ؟

لئے سماںی شرح و تفصیل سے۔  
لئے حبکریے کے عادی شخص کے لئے ؟  
لئے دفتر کے دفتر دستور کے دستور ؟  
لئے بردی دیا ک

نے حضرت کے ارشاد کو نہیں سمجھا یا حضرت نے غلبہ حال میں کوئی امر فرمایا جو تاویل کے قابل ہوتا ہے اور ان صاحبوں نے اس کوئی ہر پر مجموع فرمادیا، چنانچہ اس ناکارہ کے روپ و غلبہ حال میں بعض امور نے غلبہ فرمائے اور خود حضرت کی حالت سے سے معلوم ہو گیا اس وقت غلبہ ہے۔ ممکن ہے کسی کو اس کی طرف توجہ نہ ہوئی ہو کہ اس کو غلبہ سمجھا ہو، اور جن امور میں غلطی بھی نہیں ہوئی، مگر عوام اس سے برباد ہوئے چونکہ ان صاحبوں کو غلبہ حال ہی نہیں اور عوام کے حال سے علماء کو بوجہ اختلاط عوام کے اطلاع زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان صاحبوں کی غلطی تحقیق واقعہ میں یا غلبہ حال کے ارشادات نقل کر دینے میں قابلٰ معذوری نہیں، اور مشائخ میں یہ دونوں عذر صحیح ہیں، اور مسئلہ کی یقینی غلطی تو کسی کے لئے بھی عذر نہیں، مگر حضرت رحمتؐ سے بالکل بڑی ہیں اور حضرت کا خلافت عطا فرمادیا کسی مبنیلاً غلطی کو بنابر عدم اطلاع اس شخص کی غلطی کے ہے جس کا خلاف شان نہ ہونا اور ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی شبہ ہو بے تکلف ارشاد فرمادیا جائے۔ میں ایک ضرورت سے دوسری جگہ آیا ہوں شاید و چار روز اور رہنا ہو، فقط والسلام راقم اشرف علی عفی عنہ،

لئے ذات و صفات کی توجہ شدید میں بے خودی کی سی جو حالت ہوتی ہے یہ حضرت جنید مشبل وغیرہ کو بھی کاہ گاہ ہوتی ہے۔

لئے حق کی طرف مائل کرنے کے قابل،  
لئے باریک گھر سے مسائل

لئے اصل مشکل سمجھنے یا غلبہ سمجھنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ خود ہی ایسی طرح نقل کر دی کہ عوام کی سمجھ سے ادنیٰ مفتی۔

لئے معاذور قرار دینے کے قابل  
لئے کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی برآورشان والا کوئی نہیں ہو سکت۔

## مسئلہ خطا میں اُنسے پہلے خط کے جواب پر

### پچھے شبہات کئے ہیں؟

خدمت فیض درجت جامع کھالات صوری و معنوی مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب دامت فیضہم پس از سلام مسنون عقیدت مشحون معروض آنکہ افتخار نامہ بحوالہ عریفہ صادر پڑکر کا شفاف اسرار ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ جناب نے بطريق تہذید جواب جو کچھ اجمالاً تحریر فرمایا ہے وہ ہی مخلصین کے اطمینان قلب کے لئے کافی و دافی ہے لیکن منکرین کے لئے ہنوز گنجائش کلام باقی ہے جس کو جناب کے ارشاد کی تعلیم میں (کہ اس کے بعد اگر کوئی شبہ ہو تو بتے تخلف افہار کر دیا جاوے) ذیل میں گزارش کرتا ہوں اور امید ہے کہ اس مرتبہ کافی اور مفصل جواب کے بعد اس معاملہ میں ضرورت تصدیعہ باقی نہ رہے گی، ہر دو روایات مشورہ کتمان بشارت اور التوانی اے اجراء حد زنا کو تفصیل کے ساتھ ارقام فرمادیجھے۔ اور خلیفہ حضرت مولانا نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز کی مخالفت بمعاملہ ساع کا قصہ بھی مفصل بیححوالہ کسی کتاب کے اور نیز اسی قسم کی دیگر روایات اگر مستند کتا ہوں سے ہبھم پہنچ سکیں رقم فرماتے اسے لے رازوں کو کھولنے والا کہ جو عامہ ذہنوں سے چھپے ہوئے تھے۔

لے جواب کی تکلیف دینے کی ہر دست،  
لے حضرت عمر کا مشورہ جنت کی بشارت کو ظاہر نہ کرنے کا باوجود حکم مریج کے۔  
لے ذنادوالی، ندی پر حضرت علی کا حد زنا جاری کرنے کا ملتوی کر دینا زچگی کی وجہ سے باوجود حکم نبوی کے

کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بمقابلہ دلائل و برائین عقلی و نقلی کے گذشتہ واقعات کی تمثیل متفقین زمانہ حال میں زیادہ اثر پیدا کرتی ہے۔ بنظر علم شبہات جو اس سابقہ عریفہ سابقہ معہ ساجی نامہ ہم رشتہ عریفہ ہذا مرسل ہے۔ تاکہ تحریر جواب میں سہولت ہو، ایک امر محقق بنظر اطلاع پیش کرتا ہو اور وہ یہ ہے کہ اس عرصہ میں میری نظر سے ایک تحریر مولوی احمد حسن صاحب کا نپوری کی گذری ہے جس میں رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کی بابت یہ الفاظ تحریر ہوتے۔ (ہفت مسئلہ میں جو ضمیمه لگایا گیا ہے اس کی عدم رضا حضرت کی طرف سے ثابت ہے۔ مولوی شفیع الدین صاحب سے بتا کیا آپ نے فرمایا ہے کہ اشتہار وہ اس امر کا کہ ضمیمه ہمارے خلاف ہے)

اب اصل مطلب عرض کیا جاتا ہے اور بطريق مدعا نامہ شبہ اول کے جواب میں آپ نے ارتقام فرمایا ہے کہ چونکہ یہ افعال فی نفسہا جائز ہیں۔ انکو جائز سمجھ کر کر تھے اور کہتے تھے اور گھمان یہ تھا کہ فاعلین خاطبین حاضرین مجلس آن مقاصد سے مبتلا

لے خود کو صوفی ظاہر کرنے والوں  
لے گرامی نامہ عریفہ کے ساتھ ایک دلائل میں پر وکر،  
لے حضرت حاجی صاحبؒ کا اس سے راضی نہ ہونا جو کسی نے اپنے مذاق سے سمجھ کر کیا ہو گا۔  
لے حضرت حاجی صاحبؒ کے خلیفہ جو مکرمہ میں ہی قیام فرماتھے ظاہر ہے وہ پند و ننان میں بھی تھا  
لے غالباً نقل کرنے والے صاحب نے اپنے خالات کے سب جوں میں کسی جمل کے یہی سختے سمجھ لئے ہوں گے  
و نہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت مولانا شفیع الدین عاصی حرر اس سے پریجا میں کوٹیں کرائے یا کم از کم خطوط سے ہی افلاع دیتے جب ایسا نہیں ہوا تو خود حضرت مولانا شفیع صاحب نے یا اس کی بات کو  
غلظہ نہیں فرار دیا، یا حضرتؒ کو علط مغیرم بن کر میں فرار دیکر ناقابل توجہ فرمادیا۔

لے دعوئے کرنے والے مخالف کے طریقہ پر،  
کے اپنی ذات سے۔      شے ای کرنے والے،  
    وہ بدی اور الگ!

ہوں گے، اس موقع پر اس کی تحقیق مطلوب ہوئی کہ وہ مفاسد کیا ہیں جن سے حضرت مُبِرَّا مُحَمَّداً اور دوسروں کا مُبِرَّا ہرنا اپنے حسن ظن سے خیال فرماتے تھے جہاں تک خیال کیا جاتا ہے مفاسد وہی امور قرار دیئے گئے ہیں جن کو حضرت حاجی صاحبؒ نے مصالح پر مبنی نہ ہونا۔ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کے کہ یہ امور فی نفسِ حاجز ہیں اور تبدیل نیت اور عقیدہ سے ناجائز ہو جاتے ہیں اسکے بارہ میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اول تو نیت عقیدہ کا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، دوسرے باستثنائے جہاں وعوام قلعیانہ اور خواص نیکیتی و خوش عقیدگی کے ساتھ عرض ان مصالح پر نظر کر کے جو سلف سے منتظر نظر ہیں اس قسم کے اعمال کرتے ہیں اور ان اعمال کے ترک کو بھی صرف بخیال فوت ہو جانے آن مصلحتوں کے یا ترک اقتداء بزرگان پیشین کے نہ موم تصور کرتے ہیں۔ پھر الیٰ حالت میں عام طور پر بلا کسی استثنائے ان علماء کی مافعت حضرت حاجی صاحب کے ارشاد کے خلاف کیوں نہ بھی جاوے کیا حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں جو حفلِ میلاد شریف ہوئی تھی، یا جن محافل کے اندر ہندوستان میں یا کلمہ معلمہ وغیرہ میں حضرت حاجی صاحبؒ کو شرکت کا اتفاق ہوا ہوگا۔ ان محافل میں تد آعی اور کثرت روشنی، اور

لئے بلا بتائے یا قریٰ قریوں کے  
لئے جاہلوں اور عوام کو حضورؒ کر  
سے علماء و بزرگ،

لئے گوان کا کوئی ثبوت نہ ہو یا ناقابل رعایت نہ ہو، خصوصاً دین و ثواب اور زکوٰر زک و حب  
کی طرح قرار دینا کر کے یہ سلف سے ثابت نہیں۔  
لئے اقتداء تو امور دین و ثواب میں چاہئے نہ کہ دینی و فرضی خیالی مصلحتوں میں اور ان کو حب  
قرار دے کر کہ یہ شرعاً جرم ہو جانا ہے۔  
لئے بڑا بکھر گا اور جس کے نزک کو حضرتؒ نے جائز قرار دیا ہوا سکو جریا اور گناہ قرار دینا حضرتؒ کی بھیتی ہے  
کہ کسی کو بچانے بغیر، حالانکہ ایسا نہیں جو کسی مکر وہ ناجائز میں مبتلا نہ ہوا اس کو منع نہیں کیا۔

استقال خوشبو و اہتمام فروش وجاہے نشدت ذاکر کو بلند و ممتاز کرنا اور قیام بالتحقیق عند ذکر الولادہ اور اجتماع پر خاص و عام کا نہ ممتاز تھا، نہیں فروختہ تما تھا، پس وہ کون سے مفاسد تھے جن سے حضرت کو عدم واقفیت والا علمی عتی اور وہ کون سے واقعات تھے کہ جن سے حضرت بے خبر تھے کہ جس کی بنیاد پر داقعہ کی تحقیق میں غلطی ہونا تسلیم کیا جاسکے۔

شہر دوم چونکہ مشہر اول پر مبنی ہے اس لئے اس کے جواب کا بھی وہی انداز قائم کیا گیا کہ کسی واقعہ کی صحیح خبر نہ پہنچنے سے کوئی عمل خلاف مصلحت مرشد سے سرزنش ہو جاوے تو اس سے عطرت شیخ کی بات کوئی ناقص خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اول توحسب اقوال و اعمال متعددین سا بقین شیخ کے حق میں یہ کلام دیگران بھی کہ عمل خلاف مصلحت ہوا سوء ادبی ہے کیونکہ با وجود علم و احتمال ایسے اختلافات عظیم کے ایسے شیخ سے عمل خلاف مصلحت ہو جانا اس کی شان میں فرق ڈالنے والی بات ہے۔ دوسرے یہ عمل دریافت طلب ہوا کہ وہ کون سے ایسے واقعات تھے جن کی خبر صحیح حضرتؒ کو نہ بھیتی تھی، جہاں تک خیال کیا جاتا ہے کہ اس امر کا ثابت کرنا سخت متعدد معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کے خلاف

لئے کھڑا ہونا خصوصاً ذکر ولادت پر  
لئے علماء و جیال صرفیہ و عوام  
لئے اس کے شہر کی فرورت ہے اور پھر اس کے بھی ثبوت کی کہ حضرت نے اس پر ناگواری نہ پر  
نہیں فرمائی بلکہ هر دلت یا پسندیدگی ظاہر کی ہو، اور اس کے بھی ثبوت کہ کرنے والوں کے لئے فردی اور غیر  
شرعی کو شرعاً غیر واجب کو واجب قرار دینے کا علم تھا،  
لئے صونی لوگ ۵۰۰ قصداً خلاف ہونا نہ کہ لاعلی سے  
لئے اگر قصداً ہو،  
کہ مشکل۔ معلوم کیوں حب کر مکر مہمند مستانے سے بہت فاصلہ پر ہے۔

شہادت میں تحریری و تقریری ہندوستان میں اکثر موجود ہیں۔

شبہ سوم کا جواب بھی بطریق سابق یا رقم ہوا ہے کہ حضرت کا خلاف فتنہ مبتلا ہے غلطی کو بنابر عدم اطلاع اس شخص کی غلطی کے ہے جس عطا فرمادینا کسی مبتلا ہے غلطی کو بنابر عدم اطلاع اس شخص کی غلطی کے ہے جس شائع نہ ہوتے پائیں کیونکہ مرافقہ قلب حضرتؐ یہیں ان خلفا کے بعض عقائد و اعمال فاسدہ کا عکس جیسا کہ اکثر بزرگواروں کے حالات میں مذکور ہوتا ہے منعکس نہیں ہوا اب ان امور کا جواب بعد ملاحظہ و توجہ تحریر اول کے ارشاد فرمایا جاوے اور پہلے پتہ کے موافق ارسال فرمایا جاوے، اگرچہ ایسیں شک نہیں کہ اس فضول کام میں جناب کے اوقات عزیز کا درفت کرنا نہایت بحیوق تقدیم دہی ہے مگر بتقاضے ضرورت نظر بہ اشناقت عمیم جناب والا مجبوراً تخلیف دی گئی، فقط زیارہ نیاز:

**الجواب** از خاکسار اشرف علی عفی عنہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ میں ہنوز چھپ تھا دل ہوں۔ اس لئے آپ کا خط ویر میں ملا، آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ منکرین کے لئے ہنوز گنجائش کلام باقی ہے۔ سوا حقر نے پہلے بھی منصافین کے لئے کھاتھا۔ اور اب بھی اسی غرض سے لکھتا ہوں۔ منکرین کے لئے پہلے ہی خط میں لکھ چکا ہوں کہ دفاتر بھی کافی نہیں، خلاصہ یہ کہ تحقیق حق مقصود ہے مناظر و مقصود نہیں نہ آج کل اُس سے کوئی نفع۔

لئے تک شریف کو ان کی طرف بالکل متوجہ کرنے سے  
لئے سکھیف دینا،

لئے عام شفقوں پر نظر،  
لئے الصادق والوں کے لئے جو تعصب اور دلی کدوڑت سے الگ ہوں  
لئے دفتر کے دفتر کتا یہی ہی کتنا ہیں؟

لئے ایک بھی مکن نہیں کہ کسی نے ان کی نیترن کو ان سے ملزم کر کے یا انکے واجب کر کے کر نیکو بطریقیت  
وہاں جا کر ذکر کیا ہر کیوں نہ کان کے حاضر ماش دائمیاں متحے وہ ذکر میں نہ کر سکتے تھے اور کرتے ہی تو ایک دایت بنتی  
لئے کھلی بات،  
لئے فیض لینے والے،

لئے مکر شریٹ میں ان کے استھان دانہار کا موقعہ کب تھا،  
لئے اللہ کی پیناہ، حضور کے اول ادل زمانہ میں کے منافقوں کی طرح اندر کچھ باہر کچھ اندر کو  
کے فعل کے سمجھا جائے اور حضرت کی بیخبری ایسے ہی ہو جیسے حضور کی بیخبری تھی،  
لئے حالات اور گفتگو کو صحیح کئے بغیر،

معاملہ تو بالکل نور باطن و تصفیہ قلب و عرفان سے تعلق رکھتا ہے پھر کیوں ان ذریعوں سے مثل بزرگان سلف مریدین کے حالات کو دریافت نہیں کیتا کہ وہ عطا فرمادینا کسی مبتلا ہے غلطی کو بنابر عدم اطلاع اس شخص کی غلطی کے ہے جس کا خلاف شان نہ ہونا اوپنی طارہ موجود کا۔ اس معاملہ میں اول تو اس بات کا مان لینا کہ حضرت کو ان اشخاص کے احوال واقوال عقائد اور اعمال کی اطلاع نہ ہو سخت دشوار بلکہ بدایت کا انکار ہے۔ اور کسی طرح قرین عقل نہیں کہ جو لوگ مدت توں خدمت و صحبت میں حاضر ہے ہوں، اور نزدیک و دور سے نیضان باطنی سے مستفیض ہوتے رہے ہوں۔ ان کے معتقدات اور معمولات سے حضرت بے خبر رہیں، اور اگر عیاذ باللہ بہ تمثیل منافقان اور آمل زمانہ رسالت بیخبری تسلیم بھی کی جاوے تو حضرت پر بڑا الزام یہ عائد ہو گا، کہ بلا اطمینان تصمیع حال و قال خلافت کیوں عطا فرمادی۔ اس لئے کہ یہ امر خلافت تو کوئی دنیا کا کام نہ تھا، یا کوئی عبادت یا معاملات کا مسئلہ یا استفتاء نہ تھا، کہ جس کے بابت یہ حجت کی جاسکے کہ واقعات و حالات سے بے خبر رہنے کی وجہ سے حکم یا عمل خلاف واقعہ باصلوٹ صادر ہو گیا، بلکہ یہ

لہذا تمام ترتیبات میں اسکاتے منکرین سے قطع نظر کر لیجئے اپنے شبہات کو البتہ رفع کر لیجئے۔ دوسروں سے اگر گفتگو ہو تو اگر وہ منصف ہوں تو ان کو علماء کا حوالہ دیدیجئے، خود وہ اپنے شبہات رفع کر لیں آپ کیوں فکر فرمائے ہیں۔ اور اگر وہ متعاذ ہوں جانے دیجئے ان کے ساكت کردینے کا کوئی شرعاً مخالف نہیں پھر تعجب برداشت کرنا ایک فضول امر کے لئے کسی کوفرورت پرستی ہے، مشعرہ کتمان شہادت مشکوہ کی کتاب الایمان میں موجود ہے۔ التوَّاَءَ حد زنا کا قصہ مسلم و ابو داؤد و ترمذی میں موجود ہے۔ یکذافی التیسیر فی کتاب الحدود اور مسلم میں ایک اور قصہ مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم فرمایا، چونکہ وہ شخص کسی ام ولد کے ساتھ متہم کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مجبوب پاکھر چھوڑ دیا اور آپ نے تحسین فرمائی۔ معاملہ خلیفہ سلطان جی کا غالباً انوار العارفین میں مذکور ہے، دیگر روایات کی تلاش کی چونکہ ضرورت نہیں۔ اسلئے اس کا قصد نہیں کیا گیا، حب کہ ایک ولیل بھی کافی ہے۔ اگر یہ امر قابل اطلاع تعلیم بھی کر لیا جاوے تو مفسر نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت رحمتی خدمت میں ضمیمہ اس طرح اور ایسے عنوان سے پیش کیا گیا ہو کہ حضرت کو منظہ انکار نفس اعمال یا مع القیود المباحہ بلا کزوم المخاسد کا ہو گیا

لہ منکرین کو خاموش کرنے سے،  
لہ دلی کددورت والے دشمنی والے  
لہ آمدتنا سل کٹا ہو، لکھ کہ حضرت حاجی صاحب نے ضمیمہ کے لئے یون فرمایا تھا  
ہے نفس ان عملوں کے انکار یا جائز تقدیموں کے ساتھ بغیر خرابیاں لازم آئے کے  
انکار کا گمان ہے

ہواں بننا پر انہمار مخالفت مانعین کو مضر نہیں ہے۔ جو مفاسد آپ نے دریافت فرمائے ہیں اگر آپ اصلاح الرسم کی مفصل بحث میلاد شریف یا رسالہ طریقہ مولڈ شریف از تالیفات احقر ملاحظہ فرمادیں تو ان مفاسد کا بخوبی انکشافت ہو جاوے، مگر یہاں بھی ان کا خلاصہ و اصل الاصول عرض کئے دیتا ہوں وہ مفسدہ بھی تبدیل نیت و عقیدہ ہے اور اس پر جو شبہ لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ و نیت کا حال بلا انہمار البتہ معلوم نہیں ہو سکتا مگر حب اہل عقیدہ اپنے قول سے یا فعل سے اس کا انہمار کرویں، تو معلوم ہو جاوے یا چنانچہ ان صاحبوں کی مجموعی حالت سے اعتقاد کا حال صاف صاف ظاہر ہوتا ہے۔ مختصر امتحان یہ ہے کہ اگر یوں مشورہ دیا جاوے کہ جو قیود فی نفسہاً مباح اور جائز الفعل والترک ہیں، ان کو دس بار کرتے ہیں۔ تو دس بار ترک بھی کرو تو تاکہ قولًا و فعلًا اباحت ظاہر ہو جاوے تو اس قدر شاق ہو گا کہ قورآنی لفظ پر آمادہ ہو جاویں گے، اگر پچ پچ ان امور کو حذری نہیں سمجھتے تو اس شاق گزرنے کی کیا وجہ اکثر عوام کا تو یہی

لہ مخالفت ہونے کو فاہر کرنا اگر ایسا ہو ابھی ہر مفسر نہیں ہے کہ غلط پیشی پر غلط تاثر سے ہوا تھا۔  
لہ کہ بعض رسم یا محدود نمائش یا ان خصوصیات کو افضل یا غیر شرعی کو شرعی غیر احباب کو واجب بنانے کا عقیدہ یا واجب جیسا عمل ہے  
لہ کہ نیت کا عالم نہیں ہو سکتا ہے

لہ جو قبید یہ اپنی ذات سے جائز ہیں کہ ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔  
لہ اگر واجب عقیدہ یا عمل میں نہ قرار پایا مفہما، تو مخالفت کی کیا بات جب حضور نے کرنا نہ کرنا برابر رکھا، نہ کرنا بھی جائز فرمادیا۔ تو نہ کرنے بلکہ اس کا نام بھی لینے پر مخالفت اس حضور کے جائز کئے ہوتے کہ ناجائز بنانا ہو گی، جو سخت ترین جرم ہے۔

ہے کہ بلا ضرورت ان زلات کو گاتا پھر سے اور جو شخص مقامِ تحقیقِ احکام شرعیہ میں ان زلات کا ذکر کرے دربائی احکام کے ان کا جلت نہ ہونا بیان کرے یہ ہرگز بے ادبی ہنیں، بلکہ عین ادائے مأموریہ ہے اور یہ امر دریافت طلب کر وہ کوئے داقعات تھے اس کی تحقیق اپر ہو چکی ہے، اور وہاں یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ ایسے مفاسد و قیفہ عوام کا خواص سے مخفی رہنا شب و روز مشاہدہ میں آرہا ہے۔ اور ایک شہادت تحریری یا تقریری بھی اس کے خلاف پر قائم نہیں، البتہ اس کی موافقت میں بے شمار شہادتیں ہیں۔

**شنبہ سوم** کا جواب بھی مضامین مذکورہ بالا میں نظر کرنے سے ٹھانٹا ہر یہ یعنی اپر ظاہر ہو چکا ہے کہ مفسدہ دو میں تفسیر مشرع اور ایہام جاہل سو ایک عالم کے عقائد میں ایسا فکر تغیر مشرع کی نوبت آؤے اگر مستعبد بھی ہو، مگر ایہام جاہل یعنی ان کے عمل سے عوام مبتلا و فساو ہو جائیں ہرگز مستعبد نہیں اور چونکہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہنے تک نہ ان صاحبوں کو ان اعمال کا منتقل اہتمام کا موقع مانہ وہاں کی حاضری میں مقتدا ہونے کا خاص

لہ لغزشوں کو

لے شرعی احکام کی تحقیق کے مقام میں۔

لے احکام کے یارہ میں اٹکی دلیل کا نہ بتا،  
کھے بعینہ حکم کی ادائیگی، ۵۰ باریک  
لہ کر ایسا سمجھی نہیں ہوتا۔

کھے شرعی حکم کو بدنا غیر واجب کو واجب بنالینا، غیر ثواب کو ثواب کہنا:  
۵۵ ناواقف کو واجب و سنت کے خیال میں مبتلا کرنا۔

۵۶ بعید  
لہ کہ حضرت کے ہی تابع رہے؛  
اللہ کہ وہاں مقتدى دپیر و ہے؛

حال ہے اگر کسی تعلیم یا فتنہ فہیم کا یہ عقیدہ نہ بھی ہو تو غائبہ مافی الباب اس کے لئے علت مانا جائے پر نہ ہو گی، مگر یہ لازم نہیں آتا کہ کسی دوسری علت سے بھی منع نہ کیا جاوے اگر کوئی دوسری علت منع کی پائی جاوے گی تو ان کو بھی روکیں گے، وہ علت ایہام جاہل ہے یعنی خواص کے کسی فعل مباح سے اکثر عوام کے عقائد میں فساد آنے کا اندر لیشہ غالب ہو تو خواص بھی مأمور برک مباح ہوں گے، شافعی محدث و رحمدار نے بحث کرائے تک تبعین سورت میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں تفسیر مشرع ہو یا ایہام جاہل ہو وہاں کراہت ہو گی پس عوام الناس تغیر مشرع کی وجہ سے روکے جاتے ہیں اور خواص ایہام جاہل کی وجہ سے یہی وہ مفسدہ ہے جس کا مخفی رہ جانا اور فلتقت المیہ نہ ہونا بعید نہیں اکثر مفاسد نیات و عقائد عوام کے بزرگان و اکابر سے مخفی رہتے ہوئے روز و شب مشاہدہ میں آتے ہیں۔

**شنبہ ووم** کا جواب بھی اسی تقریر سے نکل آیا، سو عادب کا شہر اہل فہم سے ہنایت بعید ہے جب انبیاء علیہم السلام سے زلت کے کے صدور کے معتقد و قابل ہونے میں سو عادب لازم نہیں آیا، تو اولیاء کرام کے حق میں کوئی بات سو عادب کی ہے۔ ہاں سو عادب ایک طرح

۵۷ تو اس باب کی گفتگو کی انتہا یہی نہ ہو گی۔

۵۸ نادر افت لوگوں کو اس خیل میں مبتلا کرنا کہ یہ واجب یا سنت ہے یا ترک سے افضل ہے۔ تو غیر واجب کو واجب یا غیر سنت کو سنت سمجھ کر ان کا عقیدہ خراب ہو گا۔

۵۹ اس جائز کے چھوڑنے کا حکم دیتے جائیں گے۔

۶۰ لہ سماز میں کوئی سورت معین کرنے کے مکروہ ہونے کی بحث میں۔

۶۱ لہ شرعی بات کو بدلتے کی غیر واجب کو واجب قرار دینے کی وجہ سے

۶۲ اس کی طرف توجہ نہ ہونا، کے لغزش؛

موقع ملا، اللستہ ہندوستان میں پہنچ کر ان کی شان ظاہر ہوئی۔ ان اعمال کا اہم جھیکیا۔ معتقدین کا ہجوم بھی ہوا۔ ابہام کی نوبت بھی آئی تو اس ایہام کا زمانہ حاضری میں مشاہدہ کب ہو سکتا تھا۔ پھر مخفی رہنے میں کوئی استبعاد نہیں۔ اب شبہ تمثیلؒ مانا فقان و عطلتؒ خلافت سب زائل ہو گیا اور یہ سوال کہ لوز باطن سے حضرت کو کیوں نہ معلوم ہو گیا، یا کیوں نہ معادم کر لیا، اس کا حل یہ ہوا کہ آپ کو کشف کیوں نہ ہوا یا آپ نے قوت کشی کیوں نہ استعمال کیا، سو جو لوگ اس فن سے واقف ہیں ان کے نزدیک اس کا جواب یہ ہی ہے کہ کشف امر اختیاری نہیں نہ امر دامّی ہے اس لئے یہ سوال ضعیف ہے اس پر جو تفریعات کی ہیں وہ بھی اسی طرح مدفوع ہیں۔ اب آخر ہیں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی نیاشبہ ہو تو تحریر آٹھے فرمائے کامضائقہ نہیں اور اگر مثل خط دوم کے پہلے ہی شبہات کا اعادہ اور ان کے جوابوں کی توضیح کا لکھنا دنظر ہو تو اس تقدیل سے بہتر ہو گا اگر خود تشریف لا کر فیصلہ فرمالیں۔ کیونکہ تحریر میں بہت سے امور مفصل و مشرح ہونے سے رہ جاتے ہیں اور غیر ضروری امریں وقت صرف کرنا دریغ و شاق معلوم ہوتا ہے،

## والاام رسم کا شد

اے کران کے فعل سے کوئی دلیل لے کر بگوئیا۔  
لئے منقوٹ کے مثل قرار دینے کا شبہ کہ حضرتؒ کے سامنے اور کچھ ظاہر کرتے، الگ اور کچھ تو وہاں الگ کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔  
سلئے چنانچہ حضرتؒ یعقوبؓ کو یوسفؓ کو قصہ تہمت میں دافعہ مکشف نہ ہوا  
لئے جو نسبتی بناتے تھے سب دنہ ہو گئے۔

۵۔ قابل افسوس ۶۔